

سات دواؤں کے مرکبات

ڈاکٹر چوہتا چاہیے




PDFBOOKSFREE.PK

مترجم

ڈاکٹر یو۔ اے۔ چوہدری

سات دواؤں کے مرکبات



از

ڈاکٹر اے کے بھٹا چاریہ

ڈاکٹر یو اے چودھری

R

ریڈرز پبلیکیشنز

۱۵۔ نیو انارکلی ۰ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کو عام قاری کے مطالعہ، اُمتِ مسلمہ کی راہنمائی اور ثوابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچوئل لائبریری پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے تو برائے مہربانی میرے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دُعا ضرور کیجئے گا۔ شکریہ

طالبِ دُعا سعید خان

ایڈمن پاکستان ورچوئل لائبریری

www.pdfbooksfree.pk

فہرست

محمد امجد

- 5 ○ تعارف
- 11 ○ پہلا باب 'سیاروں سے متعلقہ کمچر
- 17 ○ دوسرا باب 'پورے چاند کے کمچر
- 25 ○ تیسرا باب 'رنگوں کی نسبت سے کمچر
- 29 ○ چوتھا باب 'جسمانی نظام کے مطابق کمچر
- 34 ○ پانچواں باب 'عناصر کے کمچر
- 37 ○ چھٹا باب 'کائناتی کمچر
- 42 ○ ساتواں باب 'خصوصی کمچرز

تعارف

جب سے ڈاکٹر سیموئیل ہانمن نے ہومیو پیتھی کی دریافت کی ہے اُس وقت سے اب تک اس سائنس کی ترقی کے لئے مختلف زاویوں سے تحقیقی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طریقہء علاج کی بہتری کے لئے تمام طریقے سامنے آگئے ہیں۔ اس شعبے میں اب تک زیادہ تر تحقیقی کام اس کے موجد کے بتائے ہوئے طریقہء کار پر ہی ہوا ہے لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روایتی طریقہء کار سے ہٹ کر اس طریقہء علاج پر تحقیق کی۔ اگرچہ انہوں نے زیادہ شہرت نہ پائی۔ بطور سائنس دان ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس شعبے میں کسی بھی ذریعے سے کی جانے والی تحقیق کو قبول کرنا چاہئے اور اسے استعمال میں لانا چاہئے۔ اس سے یقینی طور پر ہومیو پیتھی کی شہرت بڑھے گی اور مزید لوگ بھی ہانمن اعظم کے دکھائے ہوئے راستے کی پیروی کریں گے۔

ہماری روزمرہ پریکٹس میں ہومیو پیتھک کمپوز کا تعارف تمام دنیا میں ہومیو پیتھی کی پریکٹس کرنے والوں کے لئے ایک اضافی فائدہ ہو گا۔ بہت سے ایماندار ہومیو پیتھ جو ہانمن کے دینے ہوئے اصولوں پر پریکٹس کرتے ہیں اور اسے بہت مشکل پاتے ہیں تو وہ ہومیو پیتھی کی پریکٹس چھوڑ کر دوسری ملازمتوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو ہانمن کے سچے طریقہء کار پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں اور معجزے دکھاتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ ہومیو پیتھک سائنس کی شہرت کا باعث نہیں بن سکتے اور اسے عوام تک نہیں لاسکتے۔ اوپر دی گئی وجہ سے کمپوز پہلے ہی ہومیو پیتھی میں رائج ہیں اور ان پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ایرک ایف ڈبلیو پاول کی کتاب ”دی گروپ ریمیڈی پر۔ سکرابز“ کا ذکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل اس کتاب کی بڑی شہرت ہے۔ ڈاکٹر پاول کے بتائے ہوئے

کمپوز ڈنیا کے بہت سے حصوں میں فروخت ہو رہے ہیں اور بڑے موثر ہیں۔ بہت سی فارما سیٹیکل کمپنیاں مختلف ہومیو پیتھک ادویات سے بنائے گئے کمپوز پر مبنی ادویات جو مختلف طاقتوں میں ہوتی ہیں فروخت کر رہی ہیں۔

انہیں بہت سے ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز بڑی کامیابی سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حقائق اُن ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کو بھی پرکھنے چاہئیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاقتوں میں ہومیو پیتھک ادویات کو ملانا ہومیو پیتھی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔

دوسرے تمام طریقہ ہائے علاج مثلاً ایلو پیتھی، آیور ویدک، یونانی اور بائیو کیمسٹری وغیرہ میں دواؤں کو موثر بنانے کے لئے آپس میں ملا کر کمپوز تیار کئے جاتے ہیں۔ اکثر ان میں دواؤں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آیور ویدک میں ایک مشہور ٹانک میں ملائے گئے اجزا کی تعداد ایک سو ہے اور ہم ہندوستانی اس دوا کے حیران کن اثرات سے واقف ہیں۔ طب یونانی میں نمک سلیمانی کے اجزا کی تعداد چالیس سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح یونانی طریقہء علاج میں مختلف شربتوں کے اجزا بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ بہت موثر اور شفا بخش ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے سامنے کمپوز ہی پاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ کمپوز استعمال کیا کرتے تھے۔

بار بار کی ناکامیوں نے مختلف طریقہء علاج کے ماہرین کو یہ سکھایا ہو گا کہ ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مختلف ادویات کو کس طرح ملا کر کمپوز بنائے جاسکتے ہیں۔ ہومیو پیتھی ادویات جو طاقتوں میں ہوتی ہیں خام ادویات کی نسبت ہمیشہ اچھے نتائج دیتی ہیں جن کو اس تعارف میں آگے جا کر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

خالصتا ہومیو پیتھی علاج کرنے والے ڈاکٹر آر گینن کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیشہ ہومیو پیتھی کمپوز کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اُن کے لئے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہانمن خود بھی ہومیو پیتھی ادویات کے آپس میں ملانے سے متاثر تھے۔ اُن کے شاگردوں نے اس حقیقت کو آر گینن کے پانچویں ایڈیشن میں بیان کیا ہے۔ میں ذیل میں ڈاکٹر آر ای ڈجن کے ترتیب دیئے ہوئے آر گینن کے پانچویں ایڈیشن کے ضمیمے سے حوالہ دے رہا ہوں جو کہ بڑا واضح ہے۔

”ڈاکٹر آیلڈی کی رائے سے ڈاکٹر ہانمن نے امراض خاص طور پر مزمن امراض کے اثرات کو کم کرنے کے لئے دو ادویات کو بڑی طاقت میں ملا کر ایک خوراک بنا کر دیا۔

7

شروع میں وہ اس کے نتیجہ سے بڑا خوش تھا اور اُس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے اس طریقہ کو آرگینن کے پانچویں ایڈیشن میں شامل کرے لیکن وہ اپنے چند بہت بااثر شاگردوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ اس کی بجائے اُس نے اپنی اس تجویز کو بڑے نرم الفاظ میں آرگینن کی دفعہ 272 کے نوٹ میں لکھا۔

آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم یقینی طور پر انسانی جسم پر ہومیو پیتھی ادویات کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں اور انسانی جسم کی بناوٹ کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک مرکب دوا اکیلی دوا سے کس طرح زیادہ موثر ہے۔ ایک سائنسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہو گا۔ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی جسم حقیقت میں کیا ہے۔ یہ کیسے بنا اور یہ صحت اور بیماری کی حالت میں کیسے رہتا ہے۔ انسانی جسم کئی بلین مختلف قسم کے سیلوں کا مجموعہ ہے۔ ہر سیل اپنے طور پر الیکٹریکل سرکٹ رکھتا ہے اور ایک خاص فریکوئنسی پر تھر تھراہٹ پیدا کرتا ہے۔ جارج لاکھووسکی نے اپنی کتاب ”سیکٹ آف لائف“ میں بڑی دلچسپ بات بیان کی ہے کہ:

”انسانی سیلوں‘ نصیحتاً‘ خود انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ہر انفرادی سیل کی تھر تھراہٹ کے زیادہ سے زیادہ درجے کو قائم رکھنا ضروری ہے۔“

اب ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقتاً ہومیو پیتھک ادویات ہیں کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہر خام مادے کو جب کم کیا جاتا ہے تو وہ آخر کار الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہومیو پیتھک ادویات بناتے وقت ہم خام اشیاء کو توڑنے کے لئے دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ (i) ٹریچوریشن اور (ii) سکشن۔

ہومیو پیتھک دوا جب طاقت میں تیار ہو جاتی ہے تو وہ خام دوا کی الیکٹریکل انرجی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ یہ انرجی اپنے اندر مختلف فریکوئنسی میں تھر تھراہٹ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔

یہ انسانی نظام پر کس طرح کام کرتی ہے۔ جب کسی شخص کو منہ کے ذریعے دوا دی جاتی ہے تو یہ انسانی جسم کے اندر ایک چھوٹے ٹرانسمیٹر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر انسانی جسم میں مختلف فریکوئنسیاں براڈ کاسٹ کرتی ہے۔ ان میں سے ہر سیل اپنی ضرورت کے مطابق فریکوئنسی قابو کر لیتا ہے اور یہ اپنی تھر تھراہٹ کے زیادہ سے زیادہ درجہ پر پہنچ

جاتا ہے۔ مزمن امراض میں چونکہ بہت سے سیل اثر انداز ہوئے ہوتے ہیں اس لئے انہیں زیادہ فریکوئنسی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ہر سیل میں جو کہ متاثر ہوا ہوتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق تھر تھراہٹ پیدا کر سکے۔ ایسا کرنا یقینی طور پر ایک دوا کے لئے ممکن نہیں۔ وہ لوگ بھی جو ایک دوا استعمال کرانے کے دعوے دار ہیں جانتے ہیں کہ مزمن امراض میں زیادہ سے زیادہ علامتوں کو قابو کرنے کے لئے دوا کو جلد جلد بدلنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تمام ایسی ادویات جن کی مریض کی علامات کے مطابق نشان دہی ہو رہی ہو کو اگر ملا کر ایک ہی خوراک میں دے دیا جائے تو اس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح بنائی گئی دوا سے زیادہ فریکوئنسیاں براڈ کاسٹ ہوں گی۔

اوپر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ صرف ایک تھیوری ہی نہیں بلکہ میرے نقطہ نظر اور ذاتی تجربے کے مطابق اور دوسرے ساتھیوں کے تجربے کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند ایک ہومیو پیتھک کمچرز یقینی طور پر بہت موثر ہیں۔ چونکہ یہ کسی ایک مرض کے نام کو سامنے رکھ کر تیار کیے جاتے ہیں اس لیے ان کا چناؤ عام ہومیو پیتھی طریقہ کی نسبت کم وقت لیتا ہے۔

اگر ہم ہندوستانی طریقہ علاج آیور ویدک کو دیکھیں تو ہمیں روزانہ پریکٹس میں ہومیو پیتھی کمچرز کے لئے بہتر دلیل مل جائے گی۔ آیور ویدک لفظہ نظر سے انسانی نظام سات نظاموں (1) کیلوس (2) خون (3) گوشت (4) چربی (5) ہڈی (6) مغز اور (7) انڈے پر مشتمل ہے۔ چونکہ خوراک ہضم ہو جاتی ہے اس لئے یہ کامیابی سے ایک ایک کر کے ان سات اجزا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

ان سات نظاموں میں سے بیماری عام طور پر ایک نظام پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بیماری ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح تمام جسم بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ بیماری کو دور کرنے کے لئے سات دواؤں سے تیار کئے گئے کمچرز دینا ضروری ہے کیونکہ یہ کمچرز تمام نظاموں پر قابو پالیتے ہیں اور اپنی طاقت کے ذریعے ان میں سے بیماری کو باہر نکال پھینکتے ہیں۔ چونکہ یہ ادویات تمام نظاموں پر حاوی ہوتی ہیں اس لئے ان کی ایگریویشن ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ اونچی طاقت میں دی گئی ایک دوا نہ صرف ایک سٹم پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس سے دوسرے چھ نظام تحریک پکڑ کر بہت شدید ایگریویشن پیدا کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اس قسم کی

ایگریویشن سے بچا جائے کیونکہ مریض تو پہلے ہی بیماری کی وجہ سے بے حال ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مزید ادویات کی ایگریویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

ہر بیماری چند ایک کو چھوڑ کر پورے جسمانی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے جس میں اوپر دیئے گئے سات نظام بھی شامل ہیں۔ سات دواؤں کے مکچرز سے ان سات نظاموں کو بیماری کے اثرات سے بچا کر صحت یابی کی طرف لا کر آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک مکچر غیر موثر ثابت ہو تو دوسرا مکچر دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مریض کو کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ اگر ایک مکچر فائدہ نہیں بھی دیتا تو پھر بھی یہ نہ تو مریض کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی ایگریویشن پیدا کرتا ہے۔ اس لئے یہ مکچر ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے جو دوسرے طریقہ علاج میں شامل مرکب ادویات کو پسند کرتے ہیں۔ میرا پکا یقین ہے کہ ان مکچرز کی وجہ سے ہومیو پیتھی کو کوئی نقصان نہیں ہو گا بلکہ یہ ہومیو پیتھی کی شہرت کو چار چاند لگا دیں گے۔

میں پچھلے بیس سال سے ان ہومیو پیتھی مکچرز کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوں اور بہت کامیاب جا رہا ہوں۔ بعض اوقات مجھے ان کی تیاری کے لئے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کتاب میں دیئے گئے مکچرز کی تیاری کے لئے ریڈیستھیسیا اور میگنٹ ڈاؤزنگ سے بہت زیادہ مدد لی گئی۔ ہر مکچر کی تیاری کے لئے خصوصی چارٹ تیار کئے گئے تھے اور میگنٹ کے ذریعے ہر دوا کی تلاش کی گئی اور اُسے اُس وقت ہی مکچر میں شامل کیا گیا جب میگنٹ نے اس کی سو فیصد تائید کر دی۔

سینکڑوں مکچرز کو صرف اس لئے رد کر دیا گیا کیونکہ میگنٹ نے اس کو نہیں مانا تھا۔ میگنٹ ڈاؤزنگ سے میں نے بہت سے انفرادی فارمولے بھی بنائے ہیں لیکن یہ بہت مشکل اور وقت لینے والا کام ہے اور انہیں صرف بہت ہی خصوصی مریضوں کے لئے بنایا جا سکتا ہے۔

ذاتی مکچرز بنانے کے لئے مریض کی تصویر میگنٹ بکس کے درمیان میں رکھ لی جاتی ہے اور ساتوں انسانی نظاموں (1) کیلوس (2) خون (3) گوشت (4) چربی (5) ہڈی (6) مغز اور انڈے کے مطابق دوا کی تلاش کے لئے ان سے متعلقہ ادویات کے چارٹ تصویر کے سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں پھر پنڈولم کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سسٹم کے لئے ساتوں چارٹوں میں سے ایک ایک دوا چنی جاتی ہے۔ جب ساتوں دوائیں چن لی جاتی ہیں

تو پھر انہیں فیصد والے چارٹ پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 100 فیصد ٹھیک ہو تو اسے چن لیا جاتا ہے پھر درست پوٹینسی تلاش کرنے کے لئے پوٹینسی چارٹ کے سامنے رکھ کر درست پوٹینسی تلاش کی جاتی ہے۔ اُس کے بعد انٹروول چارٹ کے سامنے رکھ کر دوا کا وقفہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ طریقہ کار ہے لیکن جب ایک ذاتی مکسچر تیار کر لیا جاتا ہے تو پھر دوا مریض کو کم سے کم وقت میں صحت یاب کر دیتی ہے۔

میں تمام ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز کو خواہ وہ نئے ہوں یا تجربہ کار مشورہ دوں گا کہ وہ دوا کی تلاش میں میگنٹ ڈاؤزنگ اور پنڈولم سے مدد لے لیا کریں۔ درست دوا کی تلاش میں یہ بہت مددگار ہوتے ہیں۔ آج کل یہ طریقہ انگلستان، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور دُنیا کے دوسرے حصوں میں بہت مقبول ہے۔

آخر پر میں ایک بار پھر یہ کہوں گے کہ میں یہ کتاب لکھ کر مفرد دوا کے استعمال یا ہانمن کے دیئے ہوئے طریقہء علاج کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا بلکہ میرا اس سے یہ مقصد ہے کہ ہومیو پیتھی کے استعمال کو آسان بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں دیئے گئے مکسچرز کے استعمال کرنے سے اگر کسی فرد واحد کو بھی فائدہ پہنچا تو میرا اس کتاب کے لکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔
 ”سات دواؤں کے مکسچر“ ہومیو پیتھی میں وقت کا ایک تحفہ ہے۔ کائناتی قانون اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور جو کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے وہ اُسے اس تک پہنچا دیتا ہے۔

ڈاکٹر اے کے بھٹا چاریہ

1985

○ پہلا باب

سیاروں سے متعلقہ مکسچر

(PLANETARY MIXTURES)

وہ ہومیوپیتھ جو آسٹرو لوجی کو بھی سمجھتے ہیں ان مکسچرز سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔ وہ ہومیوپیتھ جو سیاروں کے صحت اور بیماری پر اثرات پر یقین رکھتے ہیں سیاروں سے متعلقہ ان مکسچرز کی عملی افادیت کو پا سکیں گے۔

آسٹرو لوجی کے حاکمانہ علم میں سیاروں کے بیماریوں پر اثرات اور ان کے میل ملاپ کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کسی نے آسٹرو لوجی کو دھیان سے پڑھا ہے وہ کسی سیارے کے بیماری سے میل ملاپ کو سمجھ سکے گا۔ سیاروں سے متعلقہ یہ مکسچر بیماری پر سیاروں کے اثرات کو کم کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔

1- سورج مکسچر (Sun Mixture)

سورج سرخ کائناتی شعاع کا اظہار ہے جو آگ کے عنصر پر حکومت کرتی ہے جس کا انسانی نظام میں عمل دخل ہے۔ اس کی اتھری سے پیدا ہونے والے امراض کے علاج کے لئے یہ مکسچر استعمال کئے جائیں۔ حرارت اور دوران خون، سردرد، آنکھوں کی بیماریوں، بھوک کے نہ رہنے، چہرے اور جسم کی بے رونقی، ہڈیوں کے امراض مثلاً 'گٹھیا' رکش اور اس طرح کی دوسری تکالیف کے لئے سورج مکسچر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ موثر اور فائدہ مند پایا جائے گا۔ یہ مکسچر ٹھنڈے امراض، ٹھنڈے سے پیدا ہونے والے امراض اور سردی کے موسم میں بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔

مکسچر
(i) کیمفر (ii) لوبیلیا (iii) ہیلادونا (iv) امبرا گریزیا (v) ٹینیم میٹ (vi) امونیم کارب
(vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

○○○○○

2- چاند مکسچر (Moon Mixture)

چاند مکسچر نارنجی شعاعوں کو مرگز کر کے بنایا گیا ہے۔ اسے ان تمام امراض میں دیا جا سکتا ہے جن میں حرارت کے اثر کو زائل کرنا مقصود ہو۔ نارنجی شعاع ٹھنڈک پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور حرارت کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ نارنجی شعاع انسانی جسم میں موجود پانی کے عنصر پر حکومت کرتی ہے۔ اس لئے چاند مکسچر انسانی جسم میں پانی کے عنصر کی کمی بیشی سے پیدا ہونے والے امراض میں تجویز کیا جا سکتا ہے۔

آسٹریولوجی کے علم کے مطابق چاند مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثلاً کثرت بول، وق، اسہال، استسقاء، درد قویج، ملیریا، مٹانے کے امراض۔ 15 دن کے بعد آنے والے بخار، سبزیرقان، کمٹی خون، پرانا نزلہ، آنکھوں کی بیماریاں، پاگل پن اور غلط عادات وغیرہ۔ اس لئے یہ مکسچر ان امراض میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ مکسچر اندھے پن اور خونی بواسیر کے لئے بھی مفید ہے۔ بچوں میں بول بستری کو بھی اس مکسچر کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اخراج خون میں چاند مکسچر شاید سب سے بہترین ہے۔ یہ مکسچر ٹھنڈی طاقت ہے اس لئے اسے حرارت اور حرارت سے پیدا ہونے والے امراض کے خلاف لڑایا جا سکتا ہے۔

مکسچر: (i) ورائٹم البم (ii) سنکوتا (iii) کاکولس (iv) اگنیشیا (v) نائٹریک ایسڈ (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیاس۔

دوا کی طاقت = 30، خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

3- مرغ مکسچر (Mars Mixture)

اس کے بعد مرغ مکسچر آتا ہے اور یہ زرد کائناتی شعاع کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی خصوصیات سورج مکسچر سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور اس طرح یہ بھی حرارت کی طاقت لئے ہوئے ہوتا ہے اور سرد طاقتوں کے خلاف ہے یعنی اس کا استعمال سرد بیماریوں مثلاً ایسی بیماریوں

جو سردی سے پیدا ہوں سرد ہواؤں سے پیدا ہوں اور سرد موسم میں ہوں کے علاج کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ لمبی ہڈیوں کا گودا (Bonemarrow) زرد رنگ کے فائدہ مند اثرات کے ذیل میں آتا ہے۔

آسٹریولوجی کی کتابوں میں مرغ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ درج ذیل بیماریوں کو ٹھیک کرنے یا ان میں بہتری پیدا کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔

(i) بچپن کی بیماریاں، (ii) جگر کی تکالیف، (iii) خون کے بگاڑ، (iv) خسرہ، (v) چچک، (vi) داد، (vii) خونی پیش، (viii) بوا سیر، (ix) فچولا، (x) دانت درد، (xi) پیشاب کا تکلیف سے آنا، (xii) خسیوں یا بیضہ دانی کی سوزش، (xiii) جوڑوں کی سوزش اور جلن دار بخار۔

یہ مکچر سردی کے خلاف گرم علاقوں میں سفید خلیات کی خرابیوں (Eosinophilia)۔ خون میں سفید ذرات کا کم ہو جانا اور مزمن پیش میں دیا جاتا ہے۔

مکچر: (i) سمٹہ (ii) کروکس (iii) نکس و امیکا (iv) برومیم (v) میگنیشیا کارب (vi) کاربوٹیج (vii) امونیم میور۔

دوا کی طاقت = 200، دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

4- عطارد مکچر (Mercury Mixture)

عطارد مکچر، سبز کائناتی شعاعوں کا اظہار کرتا ہے جو زمین کے عصر پر حکومت کرتا ہے۔ عطارد گوشت کے نظام پر بھی حکومت کرتا ہے اس لئے اسے گوشت کی بہت ساری مملک بیماریوں مثلاً گیسٹرک السر، ڈیوڈینل السر، کینسر اور بہت سی اسی طرح کی دوسری بیماریوں میں دیا جاسکتا ہے۔ آسٹریولوجی میں مندرجہ ذیل بیماریاں عطارد سے صحت یاب ہوتی ہیں۔

(i) ہکلاہٹ (ii) بیوقونی (iii) بزدلی (iv) ڈیوڈینم کی بیماری (v) لاغری (vi) مزے کا جاتے رہنا (vii) بھوک کا جاتے رہنا (viii) درد قویج (ix) منہ اور حلق کا پک جانا، بال، جانا اور دست آنا وغیرہ (x) ضعف عقل (xi) نامردی (xii) چوری کا جنون اور (xiii) زہر وغیرہ۔

سبز سرد ترین کائناتی طاقت ہے اور اس لئے عطارد مکچر کو گرم امراض کے خلاف استعمال کرنا چاہئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ مکچر استعمال کر کے ایک ایسے نوجوان کو صحت یاب

کیا جو گیسٹرک السر میں جھلا تھا اور اُسے معدے میں مار دینے والی درویں ہوتی تھیں۔ عطار و کچور کی صرف ایک خوراک نے 24 گھنٹے کے اندر اندر مریض کی تکلیف کو دور کر دیا اگرچہ اُسے تقریباً ایک سال سے روزانہ درویں ہوتی تھیں۔ مریض کے لئے یہ نسخہ پنڈولم اور ریڈ لیسٹیمیا کی مدد سے بنایا گیا۔

کچور (i) رہوم (ii) سبڈیلا (iii) آئیوڈیم (iv) امبرا گریزا (v) آرنیکا (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا۔

دوا کی طاقت - 30' دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

5- مشتری مکچر (Jupiter Mixture)

یہ مکچر نیلی کائناتی شعاع کا اظہار ہے جو ایقمر کے عنصر پر حکومت کرتا ہے۔ یہ چربی اور غدودوں کے نظام کا بھی حکمران ہے اور اسے زندگی بخشنے والا سمجھا جاتا ہے۔ آسٹروولوجی میں مشتری دوسروں میں مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

(i) پاگل پن (ii) مایعولیا (iii) متلی (iv) سردی لگ جانا اور کھانسی (v) گنٹھیا (vi) فالج (vii) گلے کی تکلیف (viii) تالو کی بیماریاں (ix) جگر کی بیماریاں (x) ریاخ کا بند ہونا (xi) رسولیاں (xii) سانس کا تکلیف سے آنا (xiii) موٹاپا (xiv) اسہال (xv) مرگی اور بہت سی دوسری متعلقہ بیماریاں۔

مشتری مذکورہ سیارہ ہے اور یہ سورج کی سلطنت سے تعلق رکھتا ہے۔ مشتری کے نیلے رنگ کو گرم کائناتی طاقت سمجھنا چاہئے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ نیلی شعائیں موٹاپے کے مریضوں میں چربی کو زائل کرتی ہیں۔

کچور (i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) نیٹرم میور (iv) امبرا گریزا (v) سیلینم (vi) آرسینک (vii) اہم اور جنٹم ٹائٹریکیم

دوا کی طاقت - 30' دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

6- زہرہ مکچر (Venus Mixture)

اس مکچر کو مرکز شدہ نیلی شعائیں سمجھنا چاہئے جو ٹھنڈی خصوصیات لئے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی کائناتی طاقت ہے اسے گرم امراض کے خلاف استعمال کرنا چاہئے۔ مرکز شدہ نیلی شعاع پانی کے عنصر پر اور جسم کے پتلے لمف پر حکومت کرتی ہے۔ آسٹریولوجی میں زہرہ مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

(i) بانجھ پن (ii) جرثوموں کا پتلا ہونا (iii) سفلس (iv) جرثوموں کا نہ ہونا (v) ذیابیطس (vi) تکلیف دہ پیشاب کا عمل (vii) رحم کی بیماریاں (viii) امراض خبیثہ (ix) سوزاک (x) نشہ بازی (xi) ہرنیا (xii) فوطوں کی سوزش (xiii) خسیوں کی تھیلی یا ریڑھ میں پانی آ جانا (xiv) آنکھ کی تکلیف (xv) کمزوری (xvi) آذیمہ (xvii) بیری بیری (xviii) وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا اور تمام قسم کی ماہواری کی تکلیف۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور مزمن جلدی تکلیف جن میں سے آسانی سے خون بہہ نکلے بھی زہرہ مکچر سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایک عورت جسے پچھلے 6 ماہ سے لگاتار نہ رکنے والی ماہواری جاری تھی زہرہ مکچر 12 کی 3 خوراکوں سے جو اسے ایک ایک دن کے وقفے سے دی گئیں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے (B-Coli Fevers) کو زہرہ مکچر کی 12 طاقت میں ایک خوراک سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ آہستہ آہستہ ہونے والے ایسے بخار جن کی کیفیت کو بیان نہ کیا جاسکے بھی اس مکچر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

مکچر: (i) ر۔ ٹینیا (ii) ایسڈ میور (iii) کاکولس (iv) برومیم (v) کالی کارب (vi) کاربووٹیج (vii) ار جنٹم میٹ

دوا کی طاقت = 6، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

7- زحل مکچر (Saturn Mixture)

اس مکچر کو بنفشی شعاعوں کا ارتکاز سمجھنا چاہئے۔ بنفشی زحل کا رنگ ہے جو تمام اعصابی نظام ہوا کے عنصر اور جلدی نظام پر حکومت کرتا ہے۔

مرخ مکچر اور زحل مکچر میں یہ فرق ہے کہ جب مرخ مکچر (Bone Marrow) کے نظام پر حکومت کرتا ہے تو زحل مکچر اعصابی نظام پر جو کہ ہڈیوں کے گودے سے خوراک

حاصل کرتا ہے آسٹریولوجی میں زحل مندرجہ ذیل بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

(i) لاغری (ii) کانلی (iii) کینسر پن (iv) بڑولی (v) بے وفائی (vi) لالچ (vii) مفلسی (viii) درد قویخ
(ix) بہرا پن (x) لنگڑا پن (xi) تلی کی تکالیف (xii) فالج (xiii) استسقاء (xiv) رعشہ (xv) ہسٹریا
(xvi) سانس کا مشکل سے آنا (xvii) ورم اعصاب (xviii) اعصابی درد اور (xix) جوڑوں کی
تکالیف۔ زحل کا تعلق چاند کی حکمرانی سے ہے جو ایک سرد مزاج سیارہ ہے۔ اس لئے زحل
ٹھنڈی کائناتی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لئے اسے حرارت والے امراض میں تجویز کرنا
چاہئے۔ زحل کبچر دائمی قبض کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔

کبچر
(i) کروشن سنگ (ii) سیڈران (iii) انٹم کروڈم (iv) امبرا گریزیا (v) براٹھا کارب (vi)

فائزو سنگما (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار

○○○○○

O دو سرا بار،

پورے چاند کے مکسچر

(RADICAL MOON MIXTURE)

وہ ہو میو پیٹھک ڈاکٹر جو آسٹریولوجی کے قوانین کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ آگے دیئے گئے 12 مکسچرز کو جو (منطقہ) برج سے متعلق ہیں بہت فائدہ مند پائیں گے۔ جب چاند اپنی پیدائش کے وقت ایک خاص نشان بناتا ہے تو اُسے پورا چاند کہا جاتا ہے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی جنم پتری بنا رکھی ہے کا علاج ان مکسچرز سے کیا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے اپنی جنم پتری نہیں بنوائی ہوئی اُن کے نام کے پہلے حرف کی مدد سے ان کا مکسچر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے نام کے پہلے حروف A - L یا ا ہیں تو اُس کا برج حمل ہو گا اور اگر کسی کے نام کا پہلا حرف B - V یا U ہے تو اُس کا برج ثور ہو گا اور اسی طرح باقی برج معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ جب ایسے اشخاص کے مزمن امراض کا علاج کیا جائے گا تو درج ذیل مکسچر ان کے لئے صحت کے کارندے کی طرح کام کریں گے۔ ہر نشان اپنی خاص خصوصیات رکھتا ہے اور اپنی خاص بیماریاں بھی۔ اس لئے یہ مکسچر ان پر ایکٹیشنرز کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جو آسٹریولوجی اور اُس کے اصولوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔

1- حمل مکسچر (Aries Mixture)

حمل کا نشان منطقہ ء برج میں پہلا برج مانا جاتا ہے۔ اس کا حکمران مریخ ہے اور اس کی خصوصیت آگ ہے۔ اگر چاند حمل کا نشان بناتا ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے اس لئے اسے سرد دوا کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اظہار اس مکسچر سے ہوتا ہے۔

نام کے بنیادی حروف - A - L اور ا

اثرات -

بیرونی = سر اور چہرہ

اندرونی = دماغ اور اعصاب کے مرکز

ساخت = کرینیل اور فیشیل ہڈیاں

مکسچر

(i) کیمفر (ii) ایسڈ میور (iii) بیہر سلف (iv) کالی بروم (v) فائی ٹولا کا (vi) سلیشیا (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30' دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

2- ثور مکسچر (Taurus Mixture)

ثور منطقہ برج کا دوسرا برج ہے۔ اس کا حکمران زہرہ ہے جو سرد طبیعت کا مالک ہے۔ جب چاند اس نشان پر ہوتا ہے تو یہ سرد ہوتا ہے اور اس وقت سرد بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ان کا علاج اس خاص مکسچر سے کیا جاسکتا ہے۔

نام کے پہلے حروف = B-V اور U

اثرات =

بیرونی = ناک اور گلا

اندرونی = خوراک کی نالی اور سیرم بلیم

ساخت = سروائیکل درٹیرا

مکسچر

(i) سیکیل کار (ii) ہیشیا (iii) کاکولس (iv) امبرا گریزیا (v) گریفائٹس (vi) سلیشیا (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30' دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

3- جوزہ مکسچر (Gemini Mixture)

جوزہ منطقہ برج کا تیسرا برج ہے۔ اس کا حکمران عطارد ہے۔ جب چاند اس کی شکل ہوتا ہے تو اس کی خصوصیات سرد ہوتی ہیں اور وہ سرد بیماریاں سدا کرتا ہے۔ ان بیماریوں کا علاج اس

خاص کچھ کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔

نام کے پہلے حروف - GH-K اور CHH

اثرات -

بیرونی - کندھے اور بازوؤں کا اوپر کا حصہ

اندرونی - پھیپھڑے، سانس اور اعصابی ریشے

ساخت - سکیپولا، کلیویکل اور ہیومرس

کچھ: (i) سکیل کار (ii) پٹیشیا (iii) پیر سلف (iv) امبرا گریزیا (v) ایسڈ ٹائٹریک (vi)

فاسفورس (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 3 'دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

4- سرطان مکسچر (Cancer Mixture)

سرطان منطقہء برج کا چوتھا برج ہے جو چاند کی حکمرانی میں ہوتا ہے۔ اس برج کا مزاج سرد ہے اور چاند جب پیدائش کے وقت اس برج میں ہوتا ہے تو اس برج کے حامل افراد سرد ہو جاتے ہیں اور وہ سرد بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نام کے پہلے حروف - D اور H

اثرات -

بیرونی - چھاتی، معدہ سے متعلقہ حصہ اور کہنی

اندرونی - معدہ اور نظام اہتمام کے اعضاء

ساخت - سٹرنم، پسلیاں اور کہنی کے جوڑے

کچھ: (i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) میگنیشیا میور (iv) کالی بروم (v) ایسڈ ٹائٹریک (vi)

سلیشیا (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 30 'دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

5- اسد مکسچر (Leo Mixture)

اس منطقہء برج کا پانچواں برج ہے جو سورج کی حکمرانی میں ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرم ہے اور جب ابتدائی چاند اس برج میں ہوتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے اور اس برج کے افراد حرارت سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

نام کے پہلے حروف = M اور T

اثرات =

بیرونی = کمر اور بازو کا کہنی سے انگلی تک کا حصہ

اندرونی = دل، خون اور جگر

ساخت = اور سل، ورٹیرا، ریڈیم اور النہا۔

مکسچر چھند (i) لرون گم (ii) اپسی کاک (iii) نکس دامیکا (iv) امبرا گریزیا (v) فائی ٹولا کا (vi) کاربو و تاج (vii) ہیلونیا س

طاقت کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

6- سنبلہ مکسچر (Virgo Mixture)

سنبلہ منطقہء برج کا چھٹا برج ہے اور یہ عطارد سیارے کی حکمرانی میں ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد ہے اور وہ افراد جو چاند کے اس برج میں ہوتے وقت پیدا ہوئے تھے سرد بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نام کا پہلا حرف = P

اثرات =

بیرونی = پیٹ کا حصہ اور ہاتھ

اندرونی = پاخانے اور جوف معدہ کے اعصاب

ساخت = کلائی، کلائی اور انگلیوں کے درمیان کی ہڈی اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی

باریک ہڈیاں۔

مکسچر چھند (i) کیمفر (ii) جیلی میم (iii) لائیو پوڈیم (iv) امبرا گریزیا (v) آرنیکا (vi) فاسفورس (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

7- میزان مکسچر (Libra Mixture)

میزان منطقہ ء برج کا ساتوں برج ہے اور اس کی حکمرانی سیارہ زہرہ کرتا ہے۔ اس برج کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اس لئے اس برج کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد سرد بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نام کے ابتدائی حروف = R اور T
اثرات =

بیرونی = کمر اور کمر سے متعلقہ حصے
اندرونی = گردے

ساخت = ریڑھ کی ہڈی

مکسچر: (i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) کاکولس (iv) امبرا گریزیا (v) فائی ٹولا کا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

8- عقرب مکسچر (Scorpio Mixture)

آٹھویں برج عقرب کا حکمران منگل سیارہ ہے۔ اس کا مزاج گرم ہے اور اس کے زیر اثر آنے والے افراد گرم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نام کے ابتدائی حروف = N اور Y
اثرات =

بیرونی = اعضاء تاسل، پیشاب کے اعضاء اور مقعد

اندرونی = اندرونی اعضاء تاسل اور مثانہ

ساخت = سیکرم اور پیڑو کی ہڈیاں

مکسچر: (i) سکیل کار (ii) ہیشیا (iii) بیلادونا (iv) امبرا گریزیا (v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii)

دوا کی طاقت = 30' دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

9- قوس مکچر (Sagittarius Mixture)

یہ منطقہ برج کانواں برج ہے اور اس کا حکمران سیارہ مشتری ہے۔ مشتری چونکہ ایک مذکر سیارہ ہے اس لئے یہ گرم سورج کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اس لئے یہ سیارہ اور اس کا برج مزاج میں گرم ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو چاند کے اس برج میں ہوتے وقت پیدا ہوئے تھے وہ حرارتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

نام کا پہلا حرف = BH، PH اور DH

اثرات =

بیرونی = کوٹھے اور ران

اندرونی = وریدی نظام

ساخت = ران کی ہڈی نمہ

مکچر
کچر
(i) سمٹھ میٹ (ii) جیلیسی میم (iii) نیٹرم میور (iv) کالی برومیٹم (v) گلگیریا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30' دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

10- جدی مکچر (Capricorn Mixture)

منطقہ برج کے دسویں گھر جدی کا حکمران زحل ہے۔ یہ ٹھنڈے سیارے چاند کے زیر اثر آتا ہے اس لئے سیارے اور اس کے برج کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اس برج کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد سرد بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا علاج اس خصوصی مکچر سے کیا جاسکتا ہے۔

نام کے ابتدائی حروف = G - K اور J

اثرات -

بیرونی - گھٹنے اور جلد کی بیرونی تہ

اندرونی - ہڈیاں

ساخت - گھٹنے کی چوڑی ہڈی پیٹلا اور گھٹنے کے جوڑ

مکھنڈ (i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) کاکولس (iv) امبرا گریزا (v) ایسڈ ٹائٹریک (vi)

آرسینک الیم (vii) امونیاک

دوا کی طاقت - 30، دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

11- دلو مکھنڈ (Aquarius Mixture)

منطقہء برج کے گیارہویں گھر دلو کا حکمران زحل ہے جو کہ سرد مزاج سیارہ ہے۔ اس لئے اس برج کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد سرد بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو اس مکھنڈ سے ٹھیک کی جاسکتی ہیں۔

نام کے ابتدائی حروف - G اور S

اثرات -

بیرونی - ٹانگیں اور ٹخنے

اندرونی - دوران خون، نظر اور سانس

ساخت - پنڈلی کی بیرونی ہڈی، پنڈلی کی بڑی ہڈی، ٹخنے اور پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں

(Astragalus)

مکھنڈ (i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) پلساٹیل (iv) کالی بروم (v) فائی ٹولاکا (vi) آرسینک

الیم (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 30، دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

12- حوت کچھر (Pisces Mixture)

حوت، منطقہء برج کا بارہواں برج ہے جو رحم دل سیارے مشتری کی حکمرانی میں ہے۔ سیارہ اور اس کا برج مزاج میں گرم ہیں۔ وہ افراد جو چاند کے اس برج میں ہوتے وقت پیدا ہوئے تھے گرم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا علاج اس کچھر سے کیا جاسکتا ہے۔

نام کے ابتدائی حروف = D-CH-JH اور TH

اثرات =

بیرونی = پاؤں اور انگوٹھے

اندرونی = لمفی نظام

ساخت = پاؤں کی ہڈیاں اور انگوٹھے

کچھر

(i) کیمفر (ii) چائنا (iii) بیلاڈونا (iv) کالی بروم (v) سیلینیم (vi) کاربود (vii)

ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

○ تیسرا باب

رنگوں کی نسبت سے مکچر

(CLOUR MIXTURES)

یہاں مکچرز کا ایک اور سیٹ دیا گیا ہے جن میں رنگوں کا علم رکھنے والے دلچسپی لے کر علاج کر سکتے ہیں۔ یہ کائناتی رنگوں کے مکچر ہیں۔ یہ قوس قزح کے سات رنگ ہیں جو سات سیاروں سے ملتے جلتے ہیں اور یہ سیارے کائنات کے سات رنگوں کی منجمد شکل ہیں۔ ان سات مکچروں کو سات خصوصی کائناتی رنگوں کی مرکز شدہ شکل سمجھا جائے۔ یہ روز مرہ پریکٹس میں بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔

1- سرخ مکچر (Red Mixture)

سرخ رنگ سورج کا رنگ ہے اور اس کا عنصر آگ ہے۔ سرخ رنگ معدے میں انتظام کو کنٹرول کرنے والی آگ ہے جو ہمیں اس قائل بناتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے معاملے کو سمجھ سکیں۔ سرخ رنگ کی خصوصیت حرارت ہے اس لئے اس دوا کو گرم دوا سمجھنا چاہئے جو سردی سے پیدا ہونے والے امراض کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس مکچر کو دل کے امراض، دوران خون کی خرابیوں، آنکھوں کے امراض، نظام انتظام کی خرابیوں اور ہڈیوں کے امراض میں دیا جاسکتا ہے۔

مکچر
(i) کروٹن سوئگ (ii) ایسڈ میور (iii) بیلاڈونا (iv) اگنیشیا (v) گنیشیا کارب (vi) سلیشیا (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 30، دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

2- نارنجی مکسچر (Orange Mixture)

نارنجی رنگ چاند کا رنگ ہے اور اس کا عنصر پانی ہے۔ انسانی جسم کے باریک لمفوں اور رطوبتوں میں پائے جانے والے پانی کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ یہ جسم میں موجود لمفوں اور رطوبتوں کے نظام کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اسے آگ کے ذریعے ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ رنگ زبان پر رہتا ہے جو مزے کا احساس دیتی ہے۔ یہ ایک سرد مکسچر ہے جسے حرارت سے پیدا ہونے والے امراض میں استعمال کرنا چاہئے۔ چاند مکسچر کے نیچے دیئے گئے امراض بھی اس کے حلقے میں آتے ہیں۔

مکسچر
 (i) کیمفر (ii) اپسی کاک (iii) بیلادونا (iv) امبراگریسیا (v) فیرم ہیٹ (vi) کاربووٹیج
 (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 12، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

3- زرد مکسچر (Yellow Mixture)

زرد رنگ مرخ سیارے کا رنگ ہے اور اس کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ یہ رنگ انسانی جسم میں جسمانی حرارت کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گرم مزاج مکسچر ہے اس لئے اسے بڑی سہولت کے ساتھ جسمانی نظام میں سردی کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض میں دیا جا سکتا ہے۔ مرخ مکسچر میں دی گئی بیماریوں میں اس مکسچر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مکسچر
 (i) سکیل کار (ii) کالی بائی کرو میکم (iii) کاکولس (iv) کالی برومیٹم (v) فائی ٹولا کا (vi)
 امونیم کارب (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

4- سبز مکسچر (Green Mixture)

سبز رنگ عطار د کا رنگ ہے اور اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں زمینی عنصر طور پر ہیٹ کے اعضاء میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، دل میں اور پھیپھڑوں میں پایا جاتا ہے۔

زینی عنصر کی خصوصیت خوشبو ہے۔ اس کچھر کا مزاج سرد ہوتا ہے اس لئے اسے حرارت سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عطاروں کے نیچے دی گئی بیماریاں راہ نمائی کے لئے دیکھی جاسکتی ہیں۔

کچھر: (i) سکیل کار (ii) ہیشیا (iii) بیلاڈونا (iv) امبراگریسیا (v) براٹھا کارب (vi)

فاسفورس (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 12' دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

5- نیلا کچھر (Blue Mixture)

نیلا رنگ مشتری کا رنگ ہے۔ اس لئے مشتری کچھر کے نیچے دی گئی بیماریوں کے علاج کے لئے یہ کچھر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ رنگ انسانی جسم کی ان خالی جگہوں یا نالیوں میں پایا جاتا ہے جن سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کچھر کا مزاج گرم ہے۔

کچھر: (i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) رہس ٹاکس (iv) امبراگریسیا (v) سمفانٹم (vi)

کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 12' دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

6- آسمانی رنگ کچھر (Indigo Mixture)

یہ رنگ انسانی جسم کے موٹے لمف میں اور سپریمز میں پایا جاتا ہے۔ اسے پانی کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ یہ زہرہ کا رنگ ہے اس لئے زہرہ کچھر کے نیچے دی گئی تمام بیماریوں کے علاج کے لئے اس کچھر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کچھر: (i) سکیل کار (ii) انٹم ٹارٹ (iii) پلساٹیل (iv) اگنیشیا (v) فائی ٹولاکا (vi) کاربووٹیج

(vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 12' دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

7- بنفشی مکچر (Violet Mixture)

برج زحل کا رنگ بنفشی ہے اور یہ انسانی جسم میں ہوا اور جلد کے نظام میں پایا جاتا ہے۔ جس سے ہم چھوٹے ہیں کیونکہ ہوا کی خصوصیت چھوٹا ہے۔ یہ مکچر ان تمام بیماریوں میں مفید پایا گیا ہے جو زحل مکچر کے حلقے میں آتی ہیں۔

مکچر: (i) کیمفر (ii) پٹیشیا (iii) رہس ٹاکس (iv) امبرا گریسیا (v) ٹائٹریک ایسڈ (vi) آرسینک البم (vii) امونیم میور۔

دوا کی طاقت = 12، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

○ چوتھا باب

جسمانی نظام کے مطابق مکچر

(Systems Mixtures)

اس گروپ میں انسانی جسم کے سات نظاموں مثلاً معدے کی رطوبت (Chyle) 'خون' گوشت، چربی، ہڈیاں، ہڈیوں کا گودا اور مادہ تولید کے مطابق سات مکچر دیئے گئے ہیں۔ وہ معالجین جو آیور ویدک کا کافی علم رکھتے ہیں وہ بیماری اور صحت میں ان سات نظاموں کے کردار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان نظاموں میں سے کسی ایک کی خرابی مریض میں بہت سی علامات پیدا کر دیتی ہے جن کے علاج کے لئے یا تو حرارت پیدا کرنے والی ادویات درکار ہوتی ہیں یا پھر سردی پیدا کرنے والی۔ بیماری، ضرورت اور نوعیت کے بارے میں چند اشارے دیئے جائیں گے تاکہ ان کے لئے درست دوا تجویز کی جاسکے۔ یہ سات مکچر انسانی جسم میں پائی جانے والی تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔

1- معدے کی رطوبت کا مکچر (Chyle Mixture)

معدے کی رطوبت کی خرابی کی وجہ سے مروڑ، تے، متلی، ہیضہ، پیچش اور بخار جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ مکچر ان بیماریوں میں ضرورت کے مطابق دن میں 3 یا 4 بار دیا جاسکتا ہے۔ مروڑوں کے ایک مریض کو یہ دوا ہر دو منٹ کے بعد دی گئی اور 5 خوراکیوں کے بعد مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ایسے حاد امراض میں جن میں معدے کی رطوبت کی خرابی ہی وجہ ہو یہ مکچر بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ مزمن امراض میں اس مکچر کو دن میں ایک یا 2 بار دینے سے مریض کا یہ نظام اوورہال ہو جاتا ہے۔ خصوصی بیماریوں میں اس مکچر کو اس گروپ کے دوسرے مکچروں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک سرد مزاج مکچر ہے۔

مکچر:

(i) سکیل کار (ii) پٹیشیا (iii) بیلا ڈونا (iv) امبرا گریسیا (v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور۔

دوا کی طاقت - 6 'دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

2- خون سے متعلقہ مکچر (Blood Mixture)

یہ مکچر خون کے نظام سے متعلقہ تمام بیماریوں میں کارآمد ہے۔ مثلاً خون کا بہنا، خونی بواسیر، خونی تے، جگر، تلی اور گردوں کی بیماریاں وغیرہ۔ اس نظام کا حاکم چاند ہے اس لئے یہ سرد مزاج مکچر ہے۔

مکچر:

(i) سکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) بیلا ڈونا (iv) امبرا گریسیا (v) براٹھا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور۔

دوا کی طاقت = 6 'دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

3- گوشت سے متعلقہ مکچر (Flesh Mixture)

یہ مکچر گوشت کے نظام کی بیماریوں کے لئے مفید ہے۔ مثلاً معدے کا السر۔ بارہ اگشتی آنت کا السر۔ عام اور مزمن السر۔ اندرونی اور بیرونی پھوڑے۔ گوشت خور پھوڑا اور جلد کی بیماریاں وغیرہ۔ یہ ایک سرد مزاج مکچر ہے جس کا تعلق عطارد سیارے سے ہے جو زمین کے عنصر کا حاکم ہے۔

مکچر:

(i) کیمفر (ii) ایسڈ میور (iii) میگنیشیا میور (iv) امبرا گریسیا (v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 6 'دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

4- چربی سے متعلقہ مکسچر (Fat Mixture)

یہ مکسچر چربی سے متعلقہ تمام امراض جن میں غدودوں کے نظام کی بیماریاں بھی شامل ہیں کے لئے مفید ہے۔ یہ مکسچر غدودوں کو طاقت دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف اعصاب پر جو غیر ارادی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ مکسچر مندرجہ ذیل بیماریوں میں مفید پایا گیا ہے۔ موٹاپا، رسولیاں، ٹانسز، کالی کھانسی اور قبض جو انٹریوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو۔ چربی کے نظام کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ یہ گرم مزاج مکسچر ہے اور ایسی بیماریوں میں دیا جاسکتا ہے جو اس نظام میں پائی جانے والی غیر معمولی سردی سے پیدا ہوئی ہوں۔

مکسچر: (i) کیمفر (ii) برائی اونیا (iii) بیلاڈونا (iv) امبرا گریسیا (v) ایٹھا کارب (vi) کاربووتج (vii) امونیم میور۔

دوا کی طاقت = 6، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

5- ہڈیوں سے متعلقہ مکسچر (Bone Mixture)

یہ مکسچر ہڈیوں کے لئے ایک بہترین ٹانک ہے اور انسانی جسم میں موجود ہڈیوں کے نظام میں پائی جانے والی بیماریوں کے علاج کے لئے مفید ہے۔ مثلاً آر تھرائٹس، آسٹیو آر تھرائٹس، ہڈیوں کا ناسور، ہڈیوں کی ٹی بی، رکنس وغیرہ۔ سب ہومیوپیتھوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ کندھے کے جوڑوں اور گھٹیاوی وجع المفاصل کا علاج کس قدر مشکل ہے۔ ایسے تمام مریضوں کا علاج اس مکسچر سے بڑے اچھے انداز میں کیا جاسکتا ہے۔ یہ بہت اچھی دوا ہے اس لئے اسے ہڈیوں کی تمام بیماریوں کے علاج کے لئے جلدی جلدی دہرانا چاہئے۔ ہڈیوں کے نظام کا حاکم سیارہ سورج ہے۔ یہ گرم مزاج مکسچر ہے۔ اس لئے اسے سردی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں استعمال کرنا چاہئے۔

مکسچر: (i) سکیل کار (ii) کالی بائی کرو میم (iii) رہس ٹاکس (iv) کالی برو میٹم (v) ٹینیم (vi) فاسفورس (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

6- گودے سے متعلقہ مکچر (Marrow Mixture)

یہ مکچر انسانی جسم میں موجود گودے کے نظام کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ مکچر خون اور اعصاب کی بیماریوں کے لئے بھی مفید ہے۔ خون کے مکچر کی طرح اسے خون کی کمی، لیوکیمیا، کلوروسس اور مختلف اعضاء سے بننے والے خون کے علاج کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ، سٹریا، دوروں کا پڑنا اور دوسری اسی طرح کی بیماریوں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف خاص طور پر جن میں گودے پر بھی اثر ہوا ہو بھی اس دوا کے حلقے میں آتی ہیں۔

اس سٹم کا حاکم Mars ہے۔ اس مکچر کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے۔

مکچر: (i) کیمفر (ii) تھوجا (iii) پلساٹیلہ (iv) کالی برومیٹم (v) سمفائٹم (vi) فاسفورس (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 30، دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

○○○○○

7- مادہ تولید کے نظام کا مکچر (Sperm Mixture)

یہ مکچر انسانی جسم میں موجود مادہ تولید سے متعلقہ تمام بیماریوں مثلاً بانجھ پن، نامردی، امراض خبیثہ، زیابیطس اور اس طرح کی دوسری بیماریوں میں مفید ہے۔ تمام مزمن امراض میں اس مکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر اکثر مزمن امراض اس سٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ اس سٹم کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ اس دوا کا مزاج سرد ہوتا ہے۔

مکچر: (i) کیمفر (ii) تھوجا (iii) لائیو پوڈیم (iv) کالی برومیٹم (v) برائٹا کارب (vi) فاسفورس (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 200، دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

○○○○○

8- جنرل ٹانک (Ojas Mixture)

یہ مکچر ان مریضوں کے لئے بہت مفید ہے جو حاد یا مزمن بیماریوں سے صحت یاب ہوئے

ہوں اسے طاقت کی بحالی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مکسچر (i) کیمفر (ii) جیلی میم (iii) موکس (iv) کنیشیا (v) سلینیم (vi) امونیم کارب

(vii) ار جنٹ میٹ

دوا کی طاقت = 200، دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

○○○○○

○ پانچواں باب

عناصر کے مکسچر

(Elements Mixture)

ہندوستانی فلاسفی میں پانچ عناصر زمین، پانی، آگ، ہوا اور ایتر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ انہیں اونچے درجے کی کائناتی طاقتیں مانا جاتا ہے۔ ان قوتوں کو مندرجہ ذیل مکسچروں میں مرکب کر دیا گیا ہے۔ وہ ہومیو پیتھک پریکٹیشنرز جو ان پانچ عناصر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اپنی پریکٹس کو چار چاند لگانے کے لئے اور انسانیت کی خدمت کے لئے ان مکسچروں کو اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

1- زمینی مکسچر (Earth Mixture)

زمینی مکسچر کی ہمارے لئے بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہماری بناوٹ اسی عنصر کی ہے۔ اس کی خصوصیت خوشبو ہے اور یہ رقیق حالت میں قوس قزح کا سبز رنگ ہوتی ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر زمینی مکسچر کا تعلق سبز مکسچر اور مرکزی مکسچر سے ہے۔ خصوصیت میں سبز مکسچر اور مرکزی مکسچر کے برابر ہے۔ یاد رکھ لینا چاہئے کہ سبز رنگ قدرت کی ٹھنڈی ترین قوت ہے اور یہ اس جگہ داخل ہو جاتی ہے جہاں پر انسانی جسم کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ جب کوئی مریض ٹائی فائیڈ بخار یا زہروں کی وجہ سے ہونے والے بخاروں کی وجہ سے شدید حرارت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے والی طاقت ور قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہ مکسچر مہیا کرتا ہے۔

مکسچر (i) ستمہ میٹ (ii) ایسڈ میور (iii) آئیوڈیم (iv) اگنیشیا (v) براٹھا کارب (vi)

فاسفورس (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 200 'دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 خوراک



2- پانی کا مکسچر (Water Mixture)

پانی بھی اونچے درجے کی غصری طاقت ہے۔ اس کی خصوصیت مزہ ہے اور اس کی رنگت نارنجی ہوتی ہے اس لئے اس مکسچر کا تعلق چاند مکسچر اور نارنجی مکسچر سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں مکسچر سیارے چاند سے منسلک ہیں۔ یہ ایک ٹھنڈا کرنے والا مکسچر ہے اور اسے ان تمام حالتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے جہاں جسم میں موجود حرارت کی زیادتی کو دور کرنا مقصود ہو۔ اونچے بخاروں، جسم سے خون کے بہہ نکلنے، دماغ میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے پائی جانے والی دیوانگی کو دور کرنے کے لئے یہ مکسچر بہت کارآمد ہے۔ زہرہ اور اس کا نارنجی رنگ بھی اسی مکسچر کے زیر اثر آتے ہیں۔

مکسچر: (i) سیکیل کار (ii) کروکس (iii) فیرم میٹ (iv) اگنیشیا (v) انٹم کروڈم (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 12، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

3- آگ مکسچر (Fire Mixture)

انسانی وجود کے احیاء کے لئے آگ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہمارے جسموں میں آگ کا عنصر نہ ہوتا تو ہمارے جسم ٹھنڈ کی وجہ سے جم جاتے اور ہمارا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا۔ اس عنصر کی خصوصیت نظر ہے اور یہ ہماری آنکھوں میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی شے کی بناوٹ کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر آگ کے عنصر کا رنگ سرخ اور ثانوی طور پر زرد ہے۔ اس لئے آگ کے عنصر کا تعلق سرخ مکسچر، سورج مکسچر، زرد مکسچر اور Mars مکسچر سے ہے۔ آگ کے اس مکسچر کو شدید ٹھنڈ لگ جانے والے کیسوں میں دیا جاسکتا ہے۔ خون کی کمی، ہڈیوں کی تکالیف، جوڑوں کے دردوں اور فالج وغیرہ میں یہ بہت کارآمد ہیں۔

مکسچر: (i) وریٹرم البم (ii) اپسی کاک (iii) کاکولس (iv) برومیم (v) فیرم میٹ (vi) آرسنیک البم (vii) سلفر۔

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

4۔ ہوا مکسچر (Air Mixture)

ہوا جس کے ساتھ ہم سانس لیتے ہیں کی ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت ہے اور یہ مکسچر ہوا کے عنصر کو مرکب کر کے ضرورت کے وقت انسانی جسم میں ہوا کی کمی کو دور کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ چھونے کی حس اس کی خصوصیت ہے اور رقیق حالت میں اس کا کائناتی رنگ بنفشی ہوتا ہے۔ تمام جلدی نظام اس رنگ کے زیر اثر آتا ہے۔ یہ مکسچر تمام اعصابی تکالیف میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس مکسچر کا تعلق اس کتاب میں دیئے گئے بنفشی مکسچر اور زحل مکسچر سے ہے۔ لہذا بنفشی مکسچر اور زحل مکسچر کے ذیل میں دی گئی بیماریاں اس مکسچر کے حلقہء اثر میں بھی آتی ہیں۔

مکسچر: (i) کیمفر (ii) برائی اونیا (iii) بیلاڈونا (iv) اگاریکس (v) کلکیریا کارب (vi) کاربوٹیج (vii) سلفر۔

دوا کی طاقت = 6، دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

5۔ ایٹر مکسچر (Ether Mixture)

یہ مکسچر ایٹر کی مرکب شدہ حالت ہے جو کہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی شے میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ایٹر ہمارے جسم کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ رقیق حالت میں اس کی رنگت نیلی ہوتی ہے۔ یہ رنگ سیارے مشتری کا ہے۔ اگر کان اور منہ کا معاملہ ایک منشور (Prism) کے ذریعے کیا جائے تو ان میں سے نیلے کائناتی رنگ کی شعاع نکلے گی جو ہمیں سننے اور بولنے کے قابل بناتی ہے۔ عملاً یہ مکسچر مشنری مکسچر اور نیلے مکسچر سے ملتا جلتا ہے۔ وہ تمام بیماریاں جن کا علاج ان دو مکسچروں کے ذریعے کیا جاسکتا ہے کا علاج ایٹر مکسچر سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

مکسچر: (i) پٹیشیا (ii) انعم کروڈم (iii) اگنیشیا (iv) میگنیشیا کارب (v) امونیم کارب (vi) ار جنٹم میٹ

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○ چھٹا باب

کائناتی مکسچر

(Universal Mixtures)

ان مکسچروں کو یونیورسل مکسچرز کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ بیماری کے نام کے قطع نظر تمام قسم کے کیسوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان مکسچروں کو حاد اور مزمن دونوں قسم کے امراض میں دیا جا سکتا ہے۔ ٹشو مکسچر، ہومیو مکسچر اور بیچ فلاور مکسچر کو حاد امراض میں دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میٹل اور جینز مکسچروں کو مزمن امراض میں دیا جا سکتا ہے۔ دو دوسرے مکسچروں جنرل ٹانک اور کمزوری کے مکسچروں کو حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ حسی اعضاء کے امراض اور اعصابی بیماریوں میں Bach's Flower اور Gems مکسچروں کو دیا جا سکتا ہے۔ Gems مکسچر کا ہومیو پیتھی سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بڑے مثبت اثرات رکھتا ہے اس لئے اس کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔

1- جواہرات کا مکسچر (Gems Mixture)

جواہرات کے اس مکسچر نے نہ صرف بچوں کے موتیا بلکہ دوسرے کئی مزمن امراض میں بڑے اچھے نتائج دکھائے ہیں۔ یہ ایک کائناتی مکسچر ہے اور اسے اکثر مزمن امراض میں استعمال کرایا جا سکتا ہے۔

جب حسی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو سبزیوں اور دھاتوں سے بنی ہوئی ادویات حسی اعضاء کے گہرے ریشوں میں داخل نہیں ہو سکتیں۔ جواہرات میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بیمار شدہ حسی اعضاء میں گہرائی تک داخل ہو کر ان کو غذا پہنچا سکتے ہیں اور ان کو بیماری کی حالت سے باہر نکال سکتے ہیں۔ موتیا بند، کمزوری نظر، دور نظری، قریب نظری، بہرہ پن، مزے کا چلے جانا، چھونے کی حس کا ختم ہو جانا وغیرہ میں حسی

اعضاء کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایسی تکالیف میں جواہرات کے مکسچر کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ میرے علم میں ایک بڑا اہم کیس ہے جس میں جواہرات مکسچر کی وجہ سے مریض کو شفا یابی ہوئی۔

آٹھ اور دس سال کی عمر کے دو لڑکوں کی نظر موتیا کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ موتیا بند مچھلی کے گہرے چھلکوں کی طرح تھا۔ ان بچوں کو جواہرات مکسچر ہفتے میں 3 دن دیا گیا۔ یہ دوا انہوں نے ایک ماہ تک کھائی۔ اس ایک ماہ کے عرصے میں دونوں لڑکوں کا موتیا بند مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور ان کی دونوں آنکھوں کی نظر نارمل حالت میں آچکی تھی۔

مکسچر: Topaz (iv) Sapphire (iii) Emerald (ii) Amethyst (i)

Diamond (vii) Cat's eye (vi) Ruby (v)

دوا کی طاقت = ۷ درنگچر، خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

2- دھاتی مکسچر (Metal Mixture)

دھاتیں عام طور پر سبزیوں سے تیار کی گئی ادویات سے زیادہ گہرا اثر رکھنے والی ہوتی ہیں اس لئے ان میں شفا یابی کی زیادہ قوت ہوتی ہے۔ دھاتوں میں سونا اس معاملے سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد چاندی بھی اس سلسلے میں بڑی موثر ہے۔ بہت سے امراض تو ان دونوں دھاتوں سے تیار کی گئی ادویات سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہومیو پیتھی میں ان دونوں ادویات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ دھاتوں کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ سات دھاتوں کو جو انسانی جسم کے سات نظاموں کیلوس (Chyle) سے مادہ منویہ (Sperm) تک کا احاطہ کرتی ہیں ملا کر ایک شاہکار مکسچر بنایا جائے۔

مزمن اور مشکل امراض کے علاج کے لئے دھاتی مکسچر سب سے بہترین ہے۔ حسی اعضاء کی بیماریوں کو چھوڑ کر باقی تمام مزمن امراض میں یہ مکسچر نہایت اچھا کام کرتا ہے۔ دمہ، آہستہ آہستہ اور تھکا دینے والے بخار، ٹی بی، لاغری، مزمن پیش اور اسی طرح کے دوسرے امراض میں دھاتی مکسچر نے بڑے اچھے نتائج دکھائے ہیں۔

مکسچر: (i) ستمہ میٹ (ii) شانم میٹ (iii) فیرم میٹ (iv) کیوپرم میٹ (v) اورم میٹ (vi)

زنم میٹ (vii) اور جنٹم میٹ

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

3- ہومیو مکچر (Homoeo Mixture)

ہومیو پیتھک مکچر ہومیو پیتھی میں سبزیوں سے تیار کی گئی ادویات سے بنایا گیا ہے۔ جس کا اثر یقینی طور پر میٹل مکچر سے کم ہے۔ اس لئے اس مکچر کو حاد اور کم حاد امراض میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حسی اور حرکی اعضاء کی بیماریوں کے علاوہ باقی تمام امراض میں یہ مکچر آزمایا جاسکتا ہے۔ یہ مکچر ایسی تمام فنکشنل خرابیوں میں مریض کو دیا جاسکتا ہے جن میں باقی زیادہ متاثر نہیں ہوئی ہوتی۔

مکچر: (i) امونیم میور (ii) امونیم کارب (iii) سمفائٹم (iv) اگنیشیا (v) پلساٹیل (vi) کروکس (vii) کیمفر

دوا کی طاقت = 12، دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

4- ٹشو مکچر (Tissure Mixture)

سب جانتے ہیں کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لئے بارہ ٹشو ریمیڈیز بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ فیرم فاس 6x درد کو دور کرنے اور بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لئے بڑی کارآمد ہے۔ کالی فاس کئی گرمی کو دور کرنے والی خصوصیت بڑی اہم ہے۔ مشکل سے ہی کوئی ہومیو پیتھ ہو گا جو ٹشو ریمیڈیز کو استعمال نہ کرتا ہو۔ فیرم فاس 6x اور کالی فاس 6x کو برابر مقدار میں ملا کر جلدی جلدی دہرانے سے خون اور پیٹ کی بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس مکچر کی قدر و قیمت کا اندازہ ایک ہومیو پیتھ کو چند مریضوں کو دوا دینے کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ اگر سات ٹشو ریمیڈیز کو ملا کر مکچر بنایا جائے تو وہ تمام جسمانی نظاموں کی صحت یابی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اس فارمولے کو بڑی احتیاط اور مکمل جانچ کے بعد بنایا گیا ہے۔

ان سات ٹشو ریمیڈیز کو 6x طاقت میں باہم ملا کر جو نئی دوا حاصل ہوتی ہے وہ تمام حاد اور مزمن امراض کو صحت یاب کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس ٹشو کمپور میں جسم کے فاسد مادے خارج کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس کمپور سے بخار، ہیضہ، اسہال، منہ اور حلق کا پک جانا، سردرد، خون کی کمی، بھوک کی کمی، بد ہضمی، غنودگی اور دق کے مریض بھی صحت یاب ہوئے ہیں۔ 6x طاقت میں یہ کمپور بہت کامیاب ثابت ہوا ہے اس لئے اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہئے۔

ایک بڑا دلچسپ کیس اس ٹشو کمپور سے ٹھیک ہوا جو ذیل میں دیا جا رہا ہے۔
ایک 45 سالہ عورت کو اس کی چھاتی میں خبیثہ (Malignant) رسولی تھی۔ رسولی بہت سخت درد کرنے والی تھی اور دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اُسے ٹشو کمپور 15 دن کے لئے دن میں 2 بار دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ 15 دن کے اس مختصر عرصے میں رسولی کا سائز آدھا رہ گیا۔ یہی کمپور مریض کو دوبارہ دیا گیا جس کے نتیجے میں ایک ماہ میں مریض کی رسولی بالکل ختم ہو گئی۔ اگلا ایک ماہ بھی مریضہ کو دوا دی گئی جس کے بعد مریضہ کو کبھی بھی دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق یہ ایک کینسر کا کیس تھا جو اس ٹشو کمپور سے ٹھیک ہو گیا۔

کمپور: (i) کلکیریا فاس 6x (ii) نیٹرم سلف 6x (iii) میگنیشیا فاس 6x (iv) کالی میور 6x (v) فیروم فاس 6x (vi) سلیسیا 6x (vii) کالی فاس 6x

دوا کی طاقت = 6x دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

5- پھولوں کا کمپور (Bach's Florel)

پھولوں سے تیار کی جانے والی ادویات بہت موثر ہیں اور انہیں مریض کی طبیعت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے۔ مصنف کو اس کمپور کی تیاری کا خیال اس لئے آیا تاکہ اس شعبہ میں دلچسپی رکھنے والے معالجین اس سے مستفید ہو سکیں۔
اس کائناتی کمپور کو تمام طبیعتوں کے مالک مریضوں کو دیا جاسکتا ہے۔ اس کمپور کی موزونیت کو ثابت کرنے کے لئے ابھی مزید تجربات کی ضرورت ہے۔

(v) Impatiens (iv) Red Chestnut (iii) Clematis (ii) Heather (i)

مکچر

Star of Bethelhem (vii) Rock Rose (vi) Walnut

دوا کی طاقت - مدر پنچر، خوراک - دن میں 3-4 بار

OOOOO

6- جنرل ٹانک (General Tonic)

یہ مکچر تمام مریضوں کو ٹانک کے طور پر تجویز کیا جاسکتا ہے۔ اسے مناسب وقت پر دینے سے کسی آنے والی بڑی بیماری سے بچا جاسکتا ہے۔ اس مکچر کو کسی حاد بیماری کے بعد نظام کو درست کرنے اور طاقت کی بحالی کے لئے بھی دیا جاسکتا ہے۔

(i) کیمفر (ii) کروکس شائیوا (iii) نکس وامیکا (iv) امبرا گریسیا (v) آرنیکا (vi)

امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

7- کمزوری کا مکچر (Weakness Mixture)

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ مکچر حاد امراض کے بعد یا کسی بھی وقت کمزوری کو دور کرنے کے لئے دیا جاسکتا ہے۔ کمزوری کا مطلب ہے کہ جسم کا نظام ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا۔ یہ مکچر جسم کے نظام کی درستگی کے لئے بہترین ہے۔

(i) سکیل کار (ii) کیمومیلا (iii) ریس ٹاکس (iv) امبرا گریسیا (v) برانٹا کارب (vi)

کاربووٹیج (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30، دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○ ساتواں باب

خصوصی مکسچرز

(Specific Mixtures)

اس باب میں دیئے گئے مکسچرز خاص خاص بیماریوں کے لئے ہیں اور انہیں ان کے آگے دی گئی بیماریوں کے علاج کے لئے دیا جا سکتا ہے۔ یہ باب ایسے ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جو اپنے شعبے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں اور مرض کی تشخیص میں ماہر ہیں اس لئے اس باب میں بیماریوں کی تفصیل نہیں دی گئی۔

1- اسقاط حمل

1- ABORTION (Threatened)

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) نکس و امیکا (iv) ٹیر-بستھینا

(v) کلکیریا کارب (vi) فاسفورس (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

2- گنجاپن

2- ALOPECIA

(i) ویریٹرم البم (ii) ایسڈ میور (iii) پلساٹیل (iv) اناکارڈیم

(v) براٹھا کارب (vi) زکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

○○○○○

3- کمٹی خون

3- ANAEMIA

(i) کروٹن سگ (ii) کروکس شائیوا (iii) فیرم میٹ (iv) اگنیشیا

(v) انٹم کروڈم (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

4- APPENDICITIS

4- ورم زائدہ

- (i) مارفین (ii) رہس ٹاکس (iii) کاربووٹیج (iv) اگنیشیا
(v) کالوستم (vi) برائی اونیا (vii) آرنیکا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

○○○○○

5- ARTHRITIS

5- وجع المفاصل

- (i) فیرم آئیوڈائیڈ (ii) مارفین (iii) امونیم کاسٹیکم (iv) روٹا
(v) آئیوڈیم (vi) کیوپرم میٹ (vii) آورم میور نیٹرم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

6- ARTHRITIS

6- وجع المفاصل

- (i) سکیل کار (ii) کالی بائی کرو میکم (iii) رہس ٹاکس (iv) کالی برومیٹم
(v) گلکیریا فاس (vi) فاسفورس (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

7- ARTHRITIS DEFORMANS

7- وجع المفاصل

- (i) سلیشیا (ii) اورم میور نیٹرم (iii) کیوپرم میٹ (iv) امونیم کاشی کم
(v) فیرم آئیوڈائیڈ (vi) فائی ٹولا کا (vii) مارفین

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں ایک خوراک

○○○○○

8- ASCITES

8- جلو دھر

- (i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) روٹا (iv) ٹیر بستیٹینا
(v) ممفائٹم (vi) سلیشیا (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

9- ASTHMA

9- دمہ

- (i) مارفین (ii) کیوپرم اسٹی کم (iii) نیٹرم میور (iv) کاربووٹیج

(v) انٹم ٹارٹ (vi) آرسینک الیم (vii) اورم میٹ
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار
OOOOO

10- ASTHMA

10- دمہ

(i) ریٹینیا (ii) کروکس شایوا (iii) ڈروسیرا (iv) اگنیشیا
(v) کالی کارب (vi) پلاٹینا میٹ (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار
OOOOO

11- ASTHMA

11- دمہ

(i) ریٹینیا (ii) تھوجا (iii) شیفنی گیگیا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) ٹینم میٹ (vi) زکم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار
OOOOO

12- ASTHMA

12- دمہ

(i) انٹم ٹارٹ (ii) برائی اونیا (iii) پیر سلف (iv) آرسینک الیم
(v) اپریکاک (vi) سینیکا (vii) اورم آیوڈیم
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
OOOOO

13- BONE T.B

13- ہڈیوں کی دق

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) آیوڈیم (iv) کالی برومیٹم
(v) ممفائٹم (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
OOOOO

14- BRAIN TONIC

14- دماغی ٹانک

(i) کالی برومیٹم (ii) مارفین (iii) فاسفورس (iv) سٹرامونیم
(v) ہائیوسیمس (vi) امونیم برومیٹم (vii) کیوپرم آرس
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

15- CANCER

15- کینسر

(i) کالی آر سینیکم (ii) مارفین (iii) لائیکوپوڈیم (iv) کیوپرم ا-سٹیکم
(v) آر سینک آئیوڈیم (vi) کاربوائنی میلس (vii) اورم آر سینیکم
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

16- CANCER

16- کینسر

(i) سکیل کار (ii) فلورک ایسڈ (iii) آئیوڈیم (iv) برومیم
(v) کالی کارب (vi) فاسفورس (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

17- CANCER

17- کینسر

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فائی ٹولاکا (vi) زکم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

○○○○○

18- CATARACT

18- موتیابند

(i) کالی میور (ii) ار جنٹم نائٹریکیم (iii) مارفین (iv) تھوجا
(v) کالی بانیکرومیم (vi) فائی سو سکما (vii) فاسفورس
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

○○○○○

19- CATARACT

19- موتیابند

(i) وریٹرم البم (ii) نکس موسکاٹا (iii) میگنیشیا میور (iv) برومیم
(v) براٹھا کارب (vi) فاسفورس (vii) ار جنٹم نائٹریکیم
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

○○○○○

20- CEREBRAL PALSY

20- دماغی فالج

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) لائیکوپوڈیم (iv) کالی برومیم

(v) ٹینم (vi) سلیشیا (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

21- CHOLERA

21- ہیضہ

(i) کیورم آرس (ii) سکیل کار (iii) وریٹرم الیم (iv) فاسفورس

(v) چینیم سلف (vi) آرسینک الیم (vii) کاربووٹیج

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = ہرپاخانے کے بعد ایک خوراک

OOOOO

22- CHOLERA

22- ہیضہ

(i) کیمفر (ii) ہیلونیا (iii) ا-تھیوزا (iv) کالی برومیٹم

(v) آرنیکا (vi) سلیشیا (vii) ایسڈ میور

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = ہرپاخانے کے بعد ایک خوراک

OOOOO

23- COLIC

23- درد قویج، مروڑ

(i) رہوم (ii) ایسڈ میور (iii) ا-تھیوزا (iv) امبراگریسیا

(v) فائی ٹوٹا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = جلدی جلدی دہرائیں

OOOOO

24- COLLAPSE

24- بے ہوشی (حالت نزع)

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) نیٹرم میور (iv) اگنیشیا

(v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = جلدی جلدی دہرائیں

OOOOO

25- COMMON COLD

25- ٹھنڈ لگ جانا

(i) رہوم (ii) اپیکاک (iii) بیلاڈونا (iv) کالی برومیٹم

(v) میگنیشیا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

26- CONSTIPATION

26- قبض

(i) سینی کیولا (ii) سکونا (iii) برائی اونیا (iv) مارفین
(v) نیٹرم میور (vi) کیوپرم آرس (vii) سیپیا
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

27- CONSTIPATION

27- قبض

(i) فائی سو سنگما (ii) گریفائٹس (iii) لوبیلیا (iv) لائیکو پوڈیم
(v) رہیوم (vi) امبراگریسیا (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

28- CONSTIPATION

28- قبض

(i) ریٹینیا (ii) برائی اونیا (iii) کاکولس (iv) کالی برومیٹم
(v) میگنیشیا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

29- CONSUMPTION

29- پھیپھڑوں کی دق کا آخری درجہ

(i) سکیل کار (ii) کروکس شائیوا (iii) پلساٹیل (iv) امبراگریسیا
(v) کالی کارب (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

30- COOLING

30- جسم کا ٹھنڈا ہو جانا

(i) سکیل کار (ii) جیلی میم (iii) رہس ٹاکس (iv) کالی بروم
(v) آرنیکا (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

31- COUGH

31- کھانسی

(i) بیلاڈونا (ii) یوپیوریم پرف (iii) انٹم ٹارٹ (iv) نیٹرم میور

(v) سینگا (vi) کونیم (vii) امونیم کارب

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 3 یا 4 بار

OOOOO

32- کھانسی

32- COUGH

(i) کالی کلوریم (ii) کونیم (iii) مارفین (iv) یوپٹوریم پرف

(v) امونیم کارب (vi) ایلیم سیپا (vii) بیلاڈونا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 3 یا 4 بار

OOOOO

33- سہرہ پن

33- DEAFNESS

(i) مارفین (ii) سٹرامونیم (iii) کیوپرم اسیٹیکم (iv) کالی آرسینیکم

(v) ہائیوسیمس (vi) کالی برومیٹم (vii) ٹیلیوریم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

34- کمزوری

34- DEBILITY

(i) کیوپرم میٹ (ii) مارفین (iii) فاسفورس (iv) کالی برومیٹم

(v) ہائیوسیمس (vi) اورم میٹ (vii) آرسینک اہم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں صرف 1 بار

OOOOO

35- بچے کی پیدائش کے عمل میں آسانی کے لئے

35- DELIVERY

(i) کروٹن ٹنگ (ii) کالوفالٹم (iii) نکس وامیکا (iv) اگنیشیا

(v) سیلینیم (vi) کاربوٹیج (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

36- جنون

36- DEMENTIA

(i) اورم آئیوڈیم (ii) سٹرامونیم (iii) کالی برومیٹم (iv) مارفین

(v) آرنیکا (vi) فیرم میٹ (vii) فاسفورس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

37- DIABETES MEL

37- ذیابیطس شکاری

(i) کالی کارب (ii) فلورک ایسڈ (iii) نیٹرم میور (iv) کروٹن ٹنگ

(v) کالی برومیٹم (vi) ہیلونیا (vii) پلاٹینا

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

38- DIABETES MEL

38- ذیابیطس شکاری

(i) تیسٹیمین (ii) مارفین (iii) سینیل (iv) ہیلونیا

(v) آر سینک آئیوڈیٹم (vi) اورم میور (vii) ار جنٹم ٹاٹرکیم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

39- DIABETES MEL

39- ذیابیطس شکاری

(i) سکیل کار (ii) تھوچا (iii) روٹا (iv) ٹیر-بستھینا

(v) فائی ٹولاکا (vi) زنم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

40- DIAPHORETIC

40- پسینہ آور دوا

(i) اکونٹ (ii) بیلڈوٹا (iii) یوپیوریم پرف (iv) فیرم میٹ

(v) سیڈرون (vi) چائنا (vii) جیلی میم

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

41- DIARRHOEA

41- اسہال

(i) سکیل کار (ii) اپیکاک (iii) پیر سلف (iv) برو میم

(v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = ہرپاخانے کے بعد ایک خوراک

OOOOO

42- DIARRHOEA (Chronic) 42- اسہال (مزمن)

(i) کیوپرم آرسینیکم (ii) چینینیم آرسینیکم (iii) آرنیکا (iv) رسی نس
(v) پلساٹیل (vi) سکیل کار (vii) فاسفورس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

43- DIARRHOEA (Chronic) 43- اسہال (مزمن)

(i) ایتھیوزا (ii) نیٹرم میور (iii) کیپسیکم (iv) آرنیکا
(v) رھیوم (vi) سکیل کار (vii) پلساٹیل

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

OOOOO

44- DIARRHOEA 44- اسہال

(i) وریٹرم البم (ii) تھوجا (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) سمفانٹم (vi) زکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = ہر پانچ گھنٹے کے بعد ایک خوراک

OOOOO

45- DROPSY 45- استسقاء

(i) برائٹا کارب (ii) اپوسانٹم (iii) کاربالک ایسڈ (iv) کیمفر
(v) برومیم (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

46- DYSENTERY 46- پچیش

(i) کالمیکم (ii) پٹیشیا (iii) آرنیکا (iv) نکس دامیکا
(v) پلساٹیل (vi) اپیکاک (vii) رھیوم

دوا کی طاقت = 3 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

47- DYSENTERY 47- پچیش

(i) فاسفورس (ii) مارفین (iii) پلساٹیل (iv) وریٹرم البم

(۷) کیوپرم اسیٹٹ (vi) کاچیکم (vii) آر سینک البم
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
OOOOO

48-DYSENTERY

48- پچیش

(i) ریٹینیا (ii) ایسڈ میور (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر بستیٹینا
(v) ٹینم (vi) فاسفورس (vii) ار جنٹ ٹائٹریکیم
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
OOOOO

49-DYSENTERY (Chronic)

49- پچیش (مزمن)

(i) ریٹینیا (ii) اپیکاک (iii) میگنیشیا میور (iv) امبراگریسا
(v) فاسٹولا کا (vi) کاربووتج (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار
OOOOO

50- ECZEMA

50- ایگزیمیا

(i) پھر سلف (ii) میزیریم (iii) انٹم کروڈم (iv) کالی آر سینیکم
(v) رہس ٹاکس (vi) اٹاکارڈیم (vii) کاربووتج
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار
OOOOO

51- ECZEMA

51- ایگزیمیا

(i) کیمفر (ii) مینتھس (iii) کروکس شایوا (iv) امبراگریسا
(v) رہس ٹاکس (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار
OOOOO

52- ECZEMA

52- ایگزیمیا

(i) سمٹھ میٹ (ii) ٹیرنٹولا (iii) رہس ٹاکس (iv) تھیرڈین
(v) گریفائٹس (vi) زنگم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں دو بار

53- ENURESIS

53- پیشاب کا غیر ارادی اخراج

- (i) سکیل کار (ii) ایسڈ سلف (iii) نکس و امیکا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فاسٹولا کا (vi) زنم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں صرف ایک خوراک

OOOOO

54- EPILEPSY

54- مرگی

- (i) رہیوم (ii) کروکس شایوا (iii) آئیوڈیم (iv) اگنیشیا
(v) برانٹا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

55- EPILEPSY

55- مرگی

- (i) جیلی میم (ii) سلیشیا (iii) ہائیوسامس (iv) سٹرامونیم
(v) کیوپرم آرسینیکم (vi) امونیم بروم (vii) ار جنٹم ٹائٹریک

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

56- EPILEPSY

56- مرگی

- (i) مارفین (ii) سلیشیا (iii) ہائیوسامس (iv) سٹرامونیم
(v) کیوپرم آرس (vi) امونیم برومیٹم (vii) کالی برومیٹم

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

57- EPILEPSY

57- مرگی

- (i) ڈریٹرم البم (ii) تھوجا (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) سمفائٹم (vi) زنم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

58- FEVER

58- بخار

- (i) کھنفر (ii) سیڈرن (iii) میگنیشیا کارب (iv) اگنیشیا

(v) میگنیشیا میور (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

59- FEVER

59- بخار

(i) اپیکاک (ii) برائی اونیا (iii) رہس ٹاکس (iv) ہپیشیا

(v) آرنیکا (vi) جیلی میم (vii) یوپیٹوریم پرف

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

60- FEVER

60- بخار

(i) انٹم ٹارٹ (ii) بیلڈونا (iii) سمبیکو کس (iv) سیڈرن

(v) سپائریا (vi) آرسینیکم آئیوڈیٹم (vii) کیوپرم آرس

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

61- FEVER

61- بخار

(i) بیلڈونا (ii) رہس ٹاکس (iii) سیڈرن (iv) ہپیشیا

(v) اپیکاک (vi) برائی اونیا (vii) جیلی میم

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

62- FEVER

62- بخار

(i) سپائریا (ii) سمبیکو کس (iii) ویلیریانا (iv) جیلی میم

(v) چائنا (vi) بیلڈونا (vii) سیڈرن

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

63- FEVER

63- بخار

(i) بیلڈونا (ii) اپیکاک (iii) چائنا (iv) سیڈرن

(v) فیرم میٹ (vi) رہس ٹاکس (vii) جیلی میم

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

64- FEVER (March, April) بخار (مارچ، اپریل)

(i) ر ہیوم (ii) اپیکاک (iii) نکس و امیکا (iv) کالی برو میٹم
(v) فاسٹولا کا (vi) کاربووٹیج (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

65- FEVER (General) بخار (عام)

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) نکس و امیکا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) ممفائٹم (vi) ز نکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

66- FEVER (KAPHA) بخار

(i) وریٹرم البم (ii) سباڈیلا (iii) شیفنی سیکریا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) ممفائٹم (vi) ز نکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

67- FILARIA ایک جلدی مرض جو طفیلی
جرثوموں سے پھیلتا ہے

(i) وریٹرم البم (ii) تھوجا (iii) انٹم کروڈم (iv) تھیرڈین
(v) فاسٹولا کا (vi) ز نکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

68- FISTULA IN ANO بھگندر

(i) سلیشیا (ii) کاربووٹیج (iii) کلکیریا فاس (iv) اورم میور
(v) فیرم آئیوڈینٹم (vi) تھوجا (vii) ٹائٹریک ایسڈ

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

69- FLATULENCE

69- اچھار (بادی ریح)

(i) ریٹینس (ii) نکس و امیکا (iii) سکوٹا (iv) کاربوٹیج

(v) پلسٹیل (vi) ایسڈ میور (vii) انٹم کروڈم

دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

70- GLANDS

70- غدود

(i) کیمفر (ii) برائی اونیا (iii) پلسٹیل (iv) کالی برومیٹم

(v) فائی ٹولاکا (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

71- GOITRE

71- گلہڑ

(i) کیل کار (ii) ایسڈ سلف (iii) آئیوڈیم (iv) کالی برومیٹم

(v) سینگویریا (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

72- GONORRHOEA

72- سوزاک

(i) ر-ٹھنیا (ii) کروکس شائیوا (iii) اٹپس میل (iv) کالی برومیٹم

(v) فائی ٹولاکا (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

73- GOUT

73- گنٹھیا

(i) فیرم آئیوڈائیڈ (ii) اورم میور نیٹرم (iii) امونیم کاشی کم (iv) روٹا

(v) کیوپرم میٹ (vi) مارفین (vii) فائی ٹولاکا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

74- GRAVE SIGNS

74- غدہ ورقہ کے فعل کی خرابی سے
مرض تھائروٹاکیسیکوسس

(i) کیمفر (ii) ایسڈ میور (iii) نیٹرم میور (iv) کالی برومیٹم

(v) آرنیکا (vi) آرسنیک البم (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 3 یا 4 بار

OOOOO

75- GREY HAIR (PREMATURE)

75- بالوں کا جلد سفید ہو جانا

(i) وریٹرم البم (ii) تھوجا (iii) انٹم کروڈم (iv) تھیریڈین

(v) فیرم میٹ (vi) فاسفورس (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

76- HAEMORRHAGE

76- جریان خون

(i) فاسفورس (ii) سکیل کار (iii) ایسڈ سلف (iv) ملی لوٹس

(v) فیرم میٹ (vi) ہیما میلس (vii) آرنیکا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

77- HAEMORRHOIDS

77- بواسیر

(i) ار جنٹم ٹائٹریکیم (ii) ہیما میلس (iii) پلسا ٹیلا (iv) پیر سلف

(v) کانسونیا (vi) اسکپولس ہپ (vii) کاربووتج

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

78- HEADACHE

78- سردرد

(i) کیمفر (ii) جیلی میم (iii) سینگونییا (iv) امبراگریا

(v) یوپٹوریم پرف (vi) فائی سو سگما (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = ہر دو گھنٹے کے بعد دوا کو دہرائیں

OOOOO

79- HEMIPLEGIA

79- ادھرنگ (جسم کے نصف حصے کا

فالج)

(i) مارفین (ii) کیوپرم میٹ (iii) کلکیریا کاشی کم (iv) کالی آئیوڈیٹم

(v) ہائیوسیمس (vi) نکس وامیکا (vii) فاسفورس
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار
OOOOO

80- HERNIA

80- ہرنیا

(i) کیوپرم میٹ (ii) مارفین (iii) آرنیکا (iv) فاسفورس
(v) وریٹرم الیم (vi) لائیکوپوڈیم (vii) امونیم کارب
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار
OOOOO

81- HERNIA

81- ہرنیا

(i) رہیوم (ii) میوریکس (iii) سپونجیا (iv) تھیرڈین
(v) برائٹا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) ار جنٹم میٹ
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار
OOOOO

82- HICCOUGH

82- ہچکی

(i) کروٹن سنگ (ii) ایسڈ میور (iii) نکس وامیکا (iv) کیوپرم میٹ
(v) برائٹا کارب (vi) زکم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار
OOOOO

83- HIGH BLOOD PRESSURE

83- بلڈ پریشر کی زیادتی

(i) سکیل کار (ii) کیمومیل (iii) میگنیشیا میور (iv) اگنیشیا
(v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار
OOOOO

84- HIGH BLOOD PRESSURE

84- بلڈ پریشر کی زیادتی

(i) سکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) نکس وامیکا (iv) ٹیر-بستینا
(v) سیلینیم (vi) زکم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

85- HODGKIN'S DISEASE

85- ہا جکن کی بیماری

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) سمفانٹم (vi) زنکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

86- HYDROCELE

86- خسیوں کی تھیلی یا ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ جانا

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) آئیوڈینٹم (iv) ٹیر-بستھینا
(v) سمفانٹم (vi) زنکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

87- HYPERACIDITY

87- معدے کی تیزابیت

(i) وریٹرم الیم (ii) برائی اونیا (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) کاربووٹیج (vi) کلکیریا فاس (vii) ار جنٹم نائٹریکیم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

88- HYPERMETROPIA

88- نزدیک کی نگاہ کمزور ہونا

(i) ریٹینیا (ii) کالی بائیکرو میکم (iii) انٹم کروڈم (iv) برومیم
(v) براٹھا کارب (vi) پلاٹینم میٹ (vii) ار جنٹم نائٹریکیم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

89- IMPOTENCE

89- نامردی

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) لائیو پوڈیم (iv) اگنیشیا
(v) کالی کارب (vi) پلاٹینا (vii) ار جنٹم نائٹریکیم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

90- INDIGESTION

90- بد ہضمی

(i) کیوپرم اسیٹٹ (ii) فیرم میٹ (iii) سکوتا (iv) سمتمہ میٹ
(v) آئیوڈینم (vi) ار جنٹم نائٹریکیم (vii) فاسفورس
دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

91- INDIGESTION

91- بد ہضمی

(i) رہیوم (ii) اپیکاک (iii) انٹم کروڈم (iv) امبراگریسیا
(v) فائی ٹولاکا (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

92- INDIGESTION

92- بد ہضمی

(i) سمتمہ میٹ (ii) سکوتا (iii) پلساٹیل (iv) امبراگریسیا
(v) میگنیشیا کارب (vi) کاربووٹیج (vii) ار جنٹم نائٹریکیم
دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

93- INFLUENZA

93- انفلوئنزا

(i) کیمفر (ii) لوبیلیا (iii) میگنیشیا میور (iv) ایلیم سیپا
(v) فائی ٹولاکا (vi) امونیم (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک - دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

94- INSANITY

94- پاگل پن

(i) پلائینا (ii) ار جنٹم میٹ (iii) کیوپرم میٹ (iv) سمتمہ میٹ
(v) اورم میٹ (vi) پلمبم میٹ (vii) انٹم ٹارٹ
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

95- INSANITY

95- پاگل پن

(i) اورم آئیوڈینم (ii) سٹرامونیم (iii) ار جنٹم نائٹریکیم (iv) فیرم میٹ

(v) کالی برومٹم (vi) مارفین (vii) لائیکوپوڈیم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

96- INSOMNIA

96- بے خوابی

(i) کیمفر (ii) کافیا (iii) بیلاڈونا (iv) امبراگریسیا

(v) آرنیکا (vi) امونیم کارب (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = روزانہ 1 بار

OOOOO

97- INSOMNIA

97- بے خوابی

(i) فیرم فاس (ii) مارفین (iii) ہائیوسیا مس (iv) کاکولس

(v) وہیلیریانہ (vi) بیلاڈونا (vii) امبراگریسیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

98- INTERMITTANT REART

98-

(i) لوپیلیا (ii) میگنیشیا میور (iii) فائی ٹولاکا (iv) ہیلونیا

(v) کالی بروم (vi) پلائینا (vii) کروٹن ٹنگ

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

99- ITCHES

99- خارش

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) افس میل (iv) اتاکارڈیم

(v) ٹینم (vi) زنگ میٹ (vii) ار جنٹم ٹا ٹریم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

100- JAUNDICE

100- یرقان

(i) سیکیل کار (ii) پوڈوقاٹلم (iii) نکس دامیکا (iv) ٹیر بستیٹینا

(v) فیرم میٹ (vi) زنگ میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

101- KALA AZAR

101- کالا آزار

(i) سیکیل کار (ii) انٹم ٹارٹ (iii) رہس ٹاکس (iv) امبراگریسیا
(v) برائٹا کارب (vi) آرسنیک البم (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار

OOOOO

102- KERATITIS

102- پردہ قرنیہ کا ورم

(i) ر-ٹھنیا (ii) یوفرزیا (iii) بیلاڈونا (iv) امبراگریسیا
(v) فیرم میٹ (vi) پلاٹینا (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں دو بار

OOOOO

103- LABOURED BREATHING

103- سانس چڑھ جانا

(i) سمٹھ میٹ (ii) کیکیٹس گرینڈی فلورا (iii) ٹکس دامیکا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) برائٹا کارب (vi) زنگم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

104- LEPROSY

104- جذام

(i) سیکیل کار (ii) تھوجا (iii) میزیریم (iv) اتاکارڈیم
(v) سمفانٹم (vi) زنگم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

OOOOO

105- LEUCODERMA

105- پھل بہری

(i) سیکیل کار (ii) فلورک ایسڈ (iii) میزیریم (iv) اتاکارڈیم
(v) ایسڈ ٹائٹرک (vi) آرسنیک البم (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

OOOOO

106- LEUCODERMA

106- بھلبہری

(i) سمٹھ میٹ (ii) چکرک ایسڈ (iii) کاربالک ایسڈ (iv) اتاکارڈیم

(v) ایسڈ فاس (vi) زنم میٹ (vii) ار جنٹم نائٹریکیم
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

107- LEUCODERMA

107- بھلبھری

(i) میکیل کار (ii) کیٹھرس (iii) کاربالک ایسڈ (iv) اگاریکس
(v) سمفانٹم (vi) زنم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

108- LEUCODERMA

108- بھلبھری

(i) کروٹن عمگ (ii) انٹم ٹارٹ (iii) سی سی فیوگا (iv) گریفائٹس
(v) کاربووٹیج (vi) امونیم میور (vii) کالی بروم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

109- LEUCORRHOEA

109- لیکوریا

(i) کریوزونم (ii) ٹریپس (iii) کایا میور (iv) فیرم آئیوڈائیڈ
(v) لائیو پوڈیم (vi) سنکوٹا (vii) ٹاکولس

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

110- LEUCORRHOEA

110- لیکوریا

(i) میکیل کار (ii) تھوجا (iii) پلساٹیل (iv) گنیشیا
(v) کلکیریا فاس (vi) پلاٹینا (vii) ار جنٹم نائٹریکیم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

111- LEUKAEMIA

111- لیوکیمیا

(i) سمٹھ میٹ (ii) تھوجا (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) سمفانٹم (vi) زنم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

112- LOCK JAW

112- دانت بند ہو جانا

(i) سیکیل کار (ii) برائی اونیا (iii) رہس ٹاکس (iv) اگنیشیا
(v) فائی ٹولا کا (vi) زکم میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

113- LOSS OF APPETITE

113- کمٹی بھوک

(i) کروٹن ٹک (ii) ایسڈ میور (iii) فیرم میٹ (iv) امبراگریسیا
(v) آئیوڈائیٹم (vi) آر سٹیک البم (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

114- LOW BLOOD PRESSURE

114- بلڈ پریشر کم ہونا

(i) کروٹن ٹک (ii) کروکس شائیوا (iii) پلساٹیل (iv) امبراگریسیا
(v) فائی ٹولا کا (vi) پلاٹینیم (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

115- LUMBAGO

115- کمر درد

(i) فیرم آئیوڈائیڈ (ii) اورم میور نیٹرم (iii) روٹا (iv) امونیم کاشی کم
(v) کیوپرم میٹ (vi) مارفین (vii) کلکیریا فاس

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

116- LUMBAGO

116- کمر درد

(i) روٹا (ii) گا-گم (iii) کالی آئیوڈائیڈ (iv) مارفین
(v) فائی ٹولا کا (vi) کاربونیم سلف (vii) رہس ٹاکس

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

117- MALARIA

117- ملیریا

(i) وریتھم البم (ii) ایسڈ میور (iii) میگنیشیا میور (iv) ٹیر-بستھینا
 (v) سمفانٹم (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

118- MALARIA

118- ملیریا

(i) فائی ٹولاکا (ii) کاربووٹیج (iii) میگنیشیا (iv) کروٹن ٹنگ
 (v) اگنیشیا (vi) ہیلونیا (vii) سیڈرن
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

119- MALARIA

119- ملیریا

(i) سیڈرن (ii) یوپیٹوریم پرف (iii) چائنا (iv) بیلڈونا
 (v) اپیکاک (vi) رہسن ٹاکس (vii) آرنیکا
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

120- MALARIA

120- ملیریا

(i) کیوپرم آرس (ii) انٹم آرس (iii) سپائریا (iv) سیڈرن
 (v) سمبیوکس (vi) مارفین (vii) اسٹیک ایسڈ
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

121- MANIA

121- جنون

(i) سٹرامونیم (ii) کیوپرم میٹ (iii) کالی برومیٹم (iv) فیرم میٹ
 (v) اورم آیوڈیٹم (vi) مارفین (vii) فاسفورس
 دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 1 بار

OOOOO

122- MARASMUS

122- سوکھا (مسان)

(i) کالی آیوڈائیڈ (ii) فاسفورس (iii) آرسنیک آیوڈائیڈ (iv) انٹی مونیم آیوڈائیڈ

(v) فیرم میٹ (vi) اورم آئیوڈائیڈ (vii) سلیشیا
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار
OOOOO

123-MEASLES

123- چچک

(i) سیکیل کار (ii) انٹم ٹارٹ (iii) ا-تھیوزا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فیرم میٹ (vi) کاربووٹیج (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 6 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار
OOOOO

124-MELANCHOLIA

124- مایخولیا

(i) اورم آئیوڈائیڈ (ii) سٹرامونیم (iii) مارفین (iv) کالی بروم
(v) ار-جنٹم نائٹریکیم (vi) فیرم میٹ (vii) فاسفورس
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں ایک بار
OOOOO

125-MENORRHAGIA

125- کثرت حیض

(i) ر-ٹھنیا (ii) کاکولس (iii) کالوفائلم (iv) اگنیشیا
(v) فائی ٹولاکا (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار
OOOOO

126-MENORRHAGIA

126- کثرت حیض

(i) ر-ٹھنیا (ii) ایسڈ میور (iii) نکس وامیکا (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فائی ٹولاکا (vi) زکم میٹ (vii) ار-جنٹم نائٹریکیم
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار
OOOOO

127-MENSTRUAL COLIC

127- ماہواری کا درد

(i) ر-ٹھنیا (ii) لوبیلیا (iii) آئیوڈائیڈ (iv) اگنیشیا
(v) آرنیکا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 6 دوا کی خوراک - دوا کو جلد جلد دہرائیں

128-MENSTRUAL COLIC

128- ماہواری کا درد

(i) ر-ٹھنیا (ii) ملی فولیم (iii) پلساٹیل (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فیرم میٹ (vi) پلاٹینا (vii) ار-جنٹم ٹائٹریک

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

129-MYOPIA

129- دور کی نگاہ کمزور ہونا

(i) ر-ٹھنیا (ii) ایسڈ میور (iii) آئیوڈیم (iv) برومیم
(v) میگنیشیا کارب (vi) فائی سو سنگما (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

130-NERVES

130- اعصاب

(i) کیمفر (ii) جیلی میم (iii) رہس ٹاکس (iv) کالی برومیٹم
(v) آرنیکا (vi) فاسفورس (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 2 بار

OOOOO

131-OBESITY

131- موٹاپا

(i) انٹم کروڈم (ii) فیرم میٹ (iii) پلساٹیل (iv) فاسفورس
(v) فاسٹولا کا (vi) کالی برومیٹم (vii) تھائریڈین

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

132-OBESITY

132- موٹاپا

(i) سلیشیا (ii) براٹھا کارب (iii) کروکس شائیوا (iv) کاکولس
(v) کروٹن گنگ (vi) کالی بروم (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

133-OBESITY

133- موٹاپا

(i) سیکل کار (ii) ایسڈ سلف (iii) روٹا گریو (iv) ٹیر-بستھینا

(v) سمفائٹم (vi) زکم میٹ (vii) سلفر
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 خوراک
OOOOO

134 - OTORRHOEA

134 - کان بہنا

(i) پہلاٹیل (ii) ہینیل گلیڈ ایکسٹریکٹ (iii) آرسنیک آیوڈائیڈ (iv) اورم آیوڈائیڈ
(v) کلکیریا فاس (vi) نیلیوریم (vii) کاربووٹیج
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں صرف 1 بار
OOOOO

135 - PARALYSIS

135 - فالج

(i) سمٹھ میٹ (ii) لیڈم پال (iii) میگنیشیا میور (iv) کالی برومیڈ
(v) فائی ٹولا کا (vi) سلیشیا (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں صرف 1 بار
OOOOO

136 - PARALYSIS (Facial)

136 - چہرے کا فالج

(i) فاسفورس (ii) مارفین (iii) ار جنٹم نائٹریکیم (iv) جیلی میم
(v) نیٹرم میور (vi) کالی برومیڈ (vii) براٹھا کارب
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار
OOOOO

137 - PARALYSIS (General)

137 - عام فالج

(i) مارفین (ii) کیوپرم میٹ (iii) کلکیریا کاسٹیکم (iv) کالی آیوڈائیڈ
(v) ہائیوسیا مس (vi) نکس وامیکا (vii) فاسفورس
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں صرف 1 بار
OOOOO

138 - PARALYSIS (Left)

138 - بائیں جانب کا فالج

(i) کالی برومیڈ (ii) کلکیریا کارب (iii) کاسٹیکم (iv) براٹھا کارب
(v) لٹھائرس (vi) زکم میٹ (vii) ہلمیم آیوڈائیڈ
دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں صرف 1 بار

139- PARALYSIS (Right) - دائیں جانب کا فالج

(i) مارفین (ii) نکس دامیکا (iii) کالی آئیوڈائیڈ (iv) سلفر
(v) نیرم میور (vi) جیلی میم (vii) لتھائرس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں صرف 1 بار

OOOOO

140- PARALYSIS

140- فالج

(i) کالی برومیٹم (ii) کاشی کم (iii) گلکیریا کارب (iv) براٹھا کارب
(v) مارفین (vi) زکم میٹ (vii) فاسفورس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

141- PARAPLEGIA

141- آدھے دھڑ کا فالج

(i) گلکیریا کاشی کم (ii) کیوپرم میٹ (iii) ہائیوسیائمس (iv) فاسفورس
(v) اورم میٹ (vi) کالی آئیوڈائیڈ (vii) مارفین

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

142- PILES

142- بواسیر

(i) سیکیل کار (ii) کانسونیا (iii) لائیکو پوڈیم (iv) کالی برومیٹم
(v) فیرم میٹ (vi) فائی سو سنگما (vii) اورم میور

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار

OOOOO

143- PNEUMONIA

143- نمونیا

(i) انٹم آرس (ii) آرسینک آئیوڈائیڈ (iii) برائی اونیا البا (iv) بیلاڈونا
(v) مارفین (vi) جیلی میم (vii) فیرم فاس

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 سے 6 بار

OOOOO

144- POLIOMYELITIS

144- بچوں کا فالج

(i) لتھائرس (ii) کالی برومیٹم (iii) مارفین (iv) سٹرامونیم

(v) فاسفورس (vi) ار جنٹم نائٹریکیم (vii) کیوپرم میٹ
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں صرف 1 بار

OOOOO

145-POLIOMYELITIS

145- بچوں کا فالج

(i) ہائیوسامس (ii) لتھارس (iii) ار جنٹم نائٹریکیم (iv) کلکیریا کاسٹیکم
(v) فاسفورس (vi) کیوپرم میٹ (vii) مارفین

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

OOOOO

146-POLIOMYELITIS

146- بچوں کا فالج

(i) سمتمہ میٹ (ii) تھوجا (iii) سٹیفنی سیکریا (iv) کیوپرم میٹ
(v) سمفائٹم (vi) زکم میٹ (vii) ار جنٹم نائٹریکیم

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

OOOOO

147-PREGNANCY VOMIT

147- دوران حمل کی متلی

(i) کھنفر (ii) انٹم ٹارٹ (iii) میگنیشیا میور (iv) امبراگریسیا
(v) فائٹولا کا (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں دو بار

OOOOO

148-PYORRHOEA

148- پائوریہا

(i) مارفین (ii) سپیا (iii) کیوپرم آئیوڈیٹم (iv) فاسفورس
(v) ایسڈ سلف (vi) سلیشیا (vii) کریوزوٹ

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = روزانہ 1 بار

OOOOO

149-REMITTENT FEVER

149- وقفوں سے ہونے والا بخار

(i) آرنیکا (ii) اپیکاک (iii) سیڈران (iv) چائنا
(v) بیلادونا (vi) اکونائٹ (vii) یوپٹوریم پرف

دوا کی طاقت = 6 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

120- RHEUMATISM

150- گٹھیا (جوڑوں کا درد)

(i) سیکیل کار (ii) کالی بائی کرو میکم (iii) رہس ٹاکس (iv) کالی برومیٹم
(v) فاسٹولا کا (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

151- RHEUMATISM

151- گٹھیا (جوڑوں کا درد)

(i) فیرم آئیوڈیٹم (ii) فیرم میور نیٹرم (iii) امونیم کاسٹیکم (iv) روٹاگریو
(v) مارفین (vi) فائی ٹولا کا (vii) آئیوڈیم
دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

152- RICKETS

152- ریکٹس (بچوں میں کیشیم کی کمی کی وجہ

سے ہڈیوں کا مڑ جانا)

(i) رہیوم (ii) ایسڈ میور (iii) ایروٹینم (iv) امبراگریا
(v) انٹم کروڈم (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

153- RICKETS

153- ریکٹس

(i) رہیوم (ii) کالی بائی کرو میکم (iii) کاکولس (iv) کالی برومیٹم
(v) فیرم میٹ (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

154- SALPINGITIS

154- فیلوپیٹن ٹیوب کی سوزش

(i) کھنفر (ii) ہائپرکیم (iii) ایسڈ ٹاٹریک (iv) امبراگریا
(v) ٹکس وامیکا (vi) کاربووٹیج (vii) ہیلونیا
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار

OOOOO

155- SCABIES

155- کھجلی

(i) سیکیل کار (ii) اپیکاک (iii) آئیوڈیم (iv) برومیٹم

(v) سمٹھلٹم (vi) میزیریم (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

156- SCIATICA

156- لنگڑی کا درد

(i) فاسٹولا کا (ii) کالی آئیوڈیم (iii) کاربن آکسی (iv) گائیکم

(v) روٹا (vi) کالوستم (vii) مارفین

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

157- SPRUE

157- سپرو (منہ اور حلق پک جانا) دست آنا اور

بال اتر جانا)

(i) سیکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) ایسڈ ٹائٹریک (iv) امبراگریسیا

(v) آئیوڈیم (vi) کاربووٹیج (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 6 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

158- STERILITY

158- بانجھ پن

(i) ریلٹھنیا (ii) ایسڈ میور (iii) انٹم کروڈم (iv) برومیٹم

(v) ٹینم (vi) پلائینا (vii) ار جنٹم ٹائٹریک

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 1 بار

OOOOO

159- STILL BIRTH

159- بچے کا مردہ پیدا ہونا

(i) ریلٹھنیا (ii) تھوجا (iii) کاکولس (iv) اگنیشیا

(v) فیرم میٹ (vi) پلائینا (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

160- TETANUS

160- خناق

(i) سیکیل کار (ii) ہائپر کیم (iii) بیلاڈونا (iv) امبرا گریسا
(v) آرنیکا (vi) کاربووتج (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 6 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

161- THROMBOSIS

161- تھرامبوسس

(i) وریٹرم ایلیم (ii) تھوجا (iii) بیلاڈونا (iv) کالی برومیٹم
(v) برائٹا کارب (vi) زنگ میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 6 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

OOOOO

162- TINNITUS

162- کلن بجنا

(i) کروٹن سنگ (ii) کیمومیلا (iii) انٹم کروڈم (iv) ٹیر-بستھینا
(v) فائٹولا کا (vi) فاسفورس (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 3 بار

OOOOO

163- TONSILITIS

163- ٹانسلائٹس

(i) آئیوڈیم (ii) برومیم (iii) کیوپرم آئیوڈیم (iv) مارفین
(v) اورم آئیوڈیم (vi) کائیگم (vii) فائٹولا کا

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

164- TONSILITIS

164- ٹانسلائٹس

(i) کیمفر (ii) ایسڈ میور (iii) آئیوڈیم (iv) اگنیشیا
(v) فائٹولا کا (vi) کاربووتج (vii) ہیلونیا

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 2 بار

OOOOO

165- TOOTHACHE

165- دانت درد

(i) برائی اونیا (ii) ہلسٹیل (iii) چائنا (iv) انٹم کروڈم

(v) پلانٹیگو (vi) کافیا (vii) میزیریم

دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

OOOOO

166- TUBERCULOSIS (Bone)

166- ہڈیوں کی ٹی بی

(i) کالی بائی کرومیم (ii) کلکیریا آرس (iii) فیرم آئیوڈیٹم (iv) فاسفورس

(v) کلکیریا کلور (vi) چینینیم آرس (vii) اورم آرس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

167- TUBERCULOSIS (General)

167- عام ٹی بی

(i) مارفین (ii) فیرم آرس (iii) سینیل (iv) کالی بائیکرومیم

(v) انٹم آئیوڈیٹم (vi) کیوپرم آرس (vii) اورم آرس

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

168- TUBERCULOSIS (Intestines)

168- آنتوں کی ٹی بی

(i) فیرم آرس (ii) چینینیم آرس (iii) کیوپرم آرس (iv) لائیکوپوڈیم

(v) پلساٹیل (vi) سکٹا (vii) آرسینک آئیوڈیٹم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

169- TUBERCULOSIS (Lungs)

169- پھیپھڑوں کی ٹی بی

(i) پلساٹیل (ii) لائیکوپوڈیم (iii) فاسفورس (iv) کاکولس

(v) فیرم آئیوڈیٹم (vi) کلکیریا کلور (vii) مارفین

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

OOOOO

170- TUBERCULOSIS (General)

170- عام ٹی بی

(i) سیکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) آئیوڈیم (iv) کالی برومیٹم

(v) کلکیریا فاس (vi) کاربووٹیج (vii) ار جنٹم ٹائٹریکیم

دوا کی طاقت = 200 دوا کی خوراک = ہفتے میں 1 بار

171- TYPHOID FEVER

171- ٹائیفائیڈ بخار

(i) کروٹن ٹنگ (ii) نیپٹیشیا (iii) پھر سلف (iv) آرنیکا
 (v) پلاٹینا میٹ (vi) امونیم میور (vii) کالی برومیٹم
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
 OOOOO

172- TYPHOID FEVER

172- ٹائیفائیڈ بخار

(i) کیوپرم آرس (ii) ایپس میل (iii) مارفین (iv) نیپٹیشیا
 (v) انٹم آرس (vi) سمبیوکس (vii) ہینیل
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
 OOOOO

173- TYPHO MALARIA FEVER

173- ٹائفو ملیریا بخار

(i) سیڈرن (ii) چائنا (iii) اپیکاک (iv) آرنیکا
 (v) فیرم میٹ (vi) یوپیٹوریم پرف (vii) ریس ٹاکس
 دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
 OOOOO

174- URTICARIA

174- تپتی

(i) انٹی پارین (ii) ٹیر-بستھینا (iii) کالی کلورائیٹم (iv) آرسنیک البم
 (v) ریس ٹاکس (vi) ٹیراڈائی مائیٹ (vii) نیٹرم میور
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
 OOOOO

175- VERTIGO

175- سرچکراتا

(i) ار جنٹم ٹائٹریکیم (ii) جیلی میم (iii) مارفین (iv) امبراگریسیا
 (v) انٹم کروڈم (vi) نیپٹیشیا (vii) برائی اونیا
 دوا کی طاقت = 12 دوا کی خوراک = دن میں 2 بار
 OOOOO

176- VERTIGO

176- سرچکراتا

(i) میکیل کار (ii) ایسڈ میور (iii) کاکولس (iv) اگنیشیا

(v) میگنیشیا کارب (vi) امونیم کارب (vii) سلفر
دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 2 بار
OOOOO

177- VOMITING

177- تے

(i) کیمفر (ii) اپیکاک (iii) برائٹا کارب (iv) امبراگریسیا
(v) نیٹرم میور (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور
دوا کی طاقت - 12 دوا کی خوراک - ہر تے کے بعد ایک خوراک
OOOOO

178- WHOOPING COUGH

178- کالی کھانسی

(i) کیوپرم آرس (ii) برومیم (iii) مارفین (iv) اورم آئیوڈیٹم
(v) فیرم میٹ (vi) کالی آئیوڈیٹم (vii) امونیم کارب
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
OOOOO

179- WHOOPING COUGH

179- کالی کھانسی

(i) سیکیل کار (ii) سمبیکو کس (iii) ڈروسیرا (iv) کالی برومیٹم
(v) میگنیشیا کارب (vi) زنگم میٹ (vii) ار جنٹم ٹائٹریکیم
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
OOOOO

180- WORMS

180- کرم

(i) سیکیل کار (ii) ٹیو کریم (iii) امبروزیا (iv) کولسیا
(v) انڈیگو (vi) فیلکس ایم (vii) فیرم میور
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار
OOOOO

181- WORMS

181- کرم

(i) سیکیل کار (ii) چائٹا (iii) بوریکس (iv) امبراگریسیا
(v) گلگیریا کارب (vi) سلیشیا (vii) سلفر
دوا کی طاقت = 30 دوا کی خوراک = دن میں 4 بار

○○○○○

182- WORMS

182- کرم

(i) ورپٹرم الہم (ii) سائٹا (iii) روٹا (iv) ٹیر-لبستھینا

(v) ٹینم (vi) امونیم کارب (vii) امونیم میور

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

183- WORMS

183- کرم

(i) کروٹن مگ (ii) سائٹا (iii) نیٹرم سلف (iv) ٹیر-لبستھینا

(v) ٹینم (vi) کاربوویج (vii) ار جنٹم ٹائٹریکیم

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

184- WORMS

184- کرم

(i) سیکیل کار (ii) سائٹا (iii) نیٹرم سلف (iv) ٹیر-لبستھینا

(v) میگنیشیا کارب (vi) زنک میٹ (vii) سلفر

دوا کی طاقت - 30 دوا کی خوراک - دن میں 4 بار

○○○○○

185- WRITERS CRAMP

185- رعشہ میں ہاتھ کے پٹھوں کا سکلرنا

(i) سمٹھ میٹ (ii) برائی اونیا (iii) رہس ٹاکس (iv) کیوپرم میٹ

(v) کالی کارب (vi) زنک میٹ (vii) ار جنٹم میٹ

دوا کی طاقت - 200 دوا کی خوراک - ہفتے میں 1 بار

اختتامیہ

کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مکچروں کو تیار کرنے کے طریقے، ان کی طاقت، خوراک اور غذا کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے۔

1- تیار کی : اس کتاب میں دیئے گئے مکچروں کو تیار کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے اور ہر کوئی جو دوا کی شیشی سے قطرہ گرانا جانتا ہے یہ مکچر تیار کر سکتا ہے جنہیں (Septenate Mixtures) کہتے ہیں۔

جس مکچر کو تیار کرنا مقصود ہو اس میں استعمال ہونے والی ساتوں دوائیں کسی اچھے ہو میو پیتھک سٹور سے خرید لیں ساتھ ہی 20 یا 30 نمبر کی گولیاں بھی لے لیں۔ کسی صاف ستھری شیشی میں ساتوں دواؤں کے برابر برابر قطرے ڈالیں اور اس مکچر میں گولیاں بھی ڈال دیں۔ جب یہ بھیگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوا تیار ہو گئی ہے۔ اب اس شیشی پر مکچر کا نام، نمبر اور دوا کی طاقت کا لیبل شیشی پر لگا دیں تاکہ دوا کے استعمال میں آسانی ہو۔ تمام چھوٹی طاقتوں کے مکچروں مثلاً '3'، '6'، '12' اور '30' وغیرہ میں 30 نمبر کی گولیاں استعمال کریں اور بڑی طاقت یعنی 200 اور اوپر والے مکچروں میں 20 نمبر کی گولیاں استعمال کریں۔

2- دوا کی طاقت : اس کتاب میں دیئے گئے مکچروں کی طاقت اور خوراک درج کر دی گئی ہے۔ یہ صرف راہنمائی کے لئے ہیں۔ ہو میو پیتھک معالج مریض اور مرض کی نوعیت کے مطابق 'حاد' معمولی حاد اور مزمن امراض میں کیس کے مطابق دوا کی طاقت اور دوا کی خوراک کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔

3- دوا کی خوراک : دوا کی خوراک کا معاملہ بہت پچھدار ہے۔ لیکن راہنمائی کے لئے یہاں چند اشارے دیئے جا رہے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ جب 30 نمبر کی گولیاں دینا مقصود ہوں تو ایک خوراک میں صرف 1 گولی دیں لیکن اگر 20 نمبر کی گولیاں دینا چاہیں تو ایک خوراک میں صرف 1 یا 2 گولیاں دیں۔ میں کسی بھی صورت میں ان مکچروں کو قطروں کی شکل میں استعمال کرانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ دوا کی خوراک کی تکرار نیچے دیئے ہوئے طریقے کے مطابق کریں لیکن اس میں مرض کی شدت کے مطابق کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

اگر مکچر کی طاقت '3'، '6' یا '12' ہو تو دن میں 3 یا 4 خوراکیں دیں

اگر کمپر کی طاقت 30 ہو تو دن میں صرف ایک خوراک دیں
اگر کمپر کی طاقت 200 ہو تو دن میں صرف ایک خوراک دیں
اگر کمپر کی طاقت 1M ہو تو دن میں صرف ایک خوراک دیں

غذا : کسی بھی طریقہء علاج میں مرض کے علاج میں غذا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرتے وقت ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ غذا کو بڑی اہمیت دے۔ یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہو کہ بیماری سے دور رہنے کے لئے متوازن غذا کیا ہوتی ہے۔ میں ذیل میں ایک عام آدمی کے لئے عام غذا کے بارے میں چند اشارے دے رہا ہوں۔ خصوصی غذا چند بیماریوں مثلاً ذیابیطس اور کینسر وغیرہ میں تجویز کی جاتی ہے۔ جسے مریض کو ان کمپرز کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ لینا چاہئے۔ میں خصوصی غذاؤں کا یہاں ذکر نہیں کرتا کیونکہ اس کتاب میں اس کی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرا مشورہ ہے کہ مریض اس مقصد کے لئے ماہرین اغذیہ سے رجوع کریں۔

شیر خوار بچوں کے لئے بہترین غذا صرف دودھ ہے۔ ماں کا دودھ سب سے بہتر ہے لیکن اس کی عدم دستیابی کی صورت میں گائے یا بکری کا دودھ بہتر ہے۔ اگر گائے یا بکری کا اچھا دودھ نہ مل رہا ہو تو بازار میں دستیاب ڈبے کا دودھ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر ڈبے کے دودھ کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ شیر خوار بچوں کے لئے اچھا نہیں ہوتا۔ کسی بھی حالت میں بچوں کو دانت نکلنے سے پہلے نشاستے والی غذائیں یعنی جو کا دلیہ یا ساگودانہ وغیرہ نہیں دینی چاہئیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو دودھ میں پانی ملا کر تھوڑا پتلا کر لیا جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔

بڑھتے ہوئے بچوں کو غذائیت والی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا دینی چاہئے۔ سب سے اہم چیز وقت ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے مقررہ اوقات پر کھائیں۔ دن میں ایک یا دو پھل بڑھتے ہوئے بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے اچھے ہیں۔ تلی ہوئی تمام اشیاء خواہ وہ تیل میں تلی گئی ہوں یا گھی میں سے بچنا چاہئے۔ غذا کے جدید ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 60 فیصد غذا کچی لینی چاہئے۔ پھلوں کے تازہ جوس تھوڑا نمک یا کالی مرچ ملا کر لینے چاہئیں۔ ایک اور اضافی غذا بیجوں کی کوئٹلین ہیں۔ میں الغلغا کے بیجوں کی کوئٹلین تجویز کرتا ہوں جو کہ یقیناً بہت اچھی ہیں۔ انہیں کچی کھانا چاہئے یہ بہت مزیدار بھی ہوتی ہیں۔ چینی سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے اس کی بجائے شکر کھائیں۔ بالغ افراد کے لئے صحت کو قائم رکھنے کے لئے دن میں دو بار کھانا کافی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا اور ضرورت سے کم کھانا دونوں صحت کے لئے نقصان دہ ہیں۔ جو لوگ اس کہاوت پر عمل کرتے ہیں کہ ”ہم زندہ رہنے کے لئے کھاتے ہیں نہ کہ کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں“ صحت مند رہتے ہیں۔

یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے امراض جلدی، فکر اور سالن سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی تیز زندگی دل کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آج کی اس دنیا میں ذہنی دباؤ اور تناؤ میں رہتے ہوئے ہر کسی کو بہت زیادہ تفکرات ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے معاملات

جن کا کوئی حل نکل سکتا ہو کے بارے میں بالکل فکر نہ کی جائے۔ خواہ مخواہ کے ٹھکرات مسائل کا حل نہیں۔ جلدی، فکر اور سالن میں سے سب سے غیر محفوظ سالن ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کھانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ اس سے ان کے نظام انتظام کے علاوہ دل پر بھی بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ کیونکہ دل کو زیادہ غذا کے انتظام کے لئے زیادہ خون سپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ نفع ہے۔ جو ڈایا فرام پر دباؤ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے دل کے کام پر غیر ضروری بوجھ پڑتا ہے۔ جب ایسا کافی عرصے تک ہوتا رہتا ہے تو دل بد دل ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں اور عام اور سادہ غذا کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ کھانا اُس وقت کھایا جائے جب پہلے کھایا ہوا کھانا پوری طرح ہضم ہو چکا ہو۔

اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے پانی کا پینا بھی بہت ضروری ہے۔ پانی کو صرف کھانے کے 4 گھنٹے بعد ہی نہیں پینا چاہئے بلکہ اسے کھانے کے دوران بھی پینا چاہئے اور اس کے علاوہ کسی وقت بھی پی لینا چاہئے۔ پانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ”بد ہضمی میں پانی دوا کی طرح کام کرتا ہے۔“ پانی کو جب غذا کے ہضم ہونے کے بعد پیا جائے تو یہ طاقت دیتا ہے۔ اسے کھانے کے دوران پیا جائے تو یہ شہد کے سے فوائد دیتا ہے اور اگر کھانے کے بعد پیا جائے تو یہ زہر کی طرح کام کرتا ہے۔ پانی پینے کا سب سے اچھا وقت صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پانی نہیں پینا چاہئے۔

اوپر چند نقاط دے دیئے گئے ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو ان کے اچھے فوائد ظاہر ہوں گے اور غیر ضروری دوائیں کھانے سے بچا جاسکے گا۔ سب معالجین کو جان لینا چاہئے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔



ممتاز محقق، ماہر تعلیم اور
ہومیو پیتھی کی کئی کتابوں کے مصنف

ہومیو پیتھک ڈاکٹر یو اے چودھری

سے ہر قسم کے حاد اور مزمن امراض
کے علاج کے لئے رجوع فرمائیں

اوقات کلینک

صبح 10 بجے سے 5 بجے شام تک

پہلی منزل لاہور آرٹ پریس بلڈنگ

15- نیو انارکلی لاہور (فون: 7351898)

شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک

G-201 ہبزہ زار، ملتان روڈ لاہور (فون: 7845498-7845501)